

عملیات زادی

باب الحکم کا وہ پرستا شیر و رو جو ہر زمانے میں ملکات سے نجات کا نشان ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَادِي عَلَيْهِ الظُّرُوفُ مِنْ الْجَاهِيَّةِ
تَجْدِهُ عَوْنَاكَ فِي الْهَوَاهِ
كُلُّ هُنْدُونَ لَهُمْ مُشَاهِدٌ
بُولَاتِكَ بَاعِدُ يَا يَا عَلَى

ڈاکٹر ابو علی ارسلان





پریشان اور مصائب میں گھرے لوگوں کیلئے نادر کتاب

عملیات نادعلیٰ

ڈاکٹر ابوالعلیٰ ارسلان

روبی پبلی کیشنز

پہلی منزل المراج شریعت 22 اردو بازار لاہور - فون 042-7243301

Mobiles: 0300-4131901 - 0300-4213406

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشر محمد عمران انجمن
 کپڑا گ وزیر کمیٹی پوزنگ سٹر، لاہور
 پرنٹر چوہدری طاہر حیدر
 5۔ قطب روڈ لاہور
 قیمت 80 روپے

= = = = = **روبی پبلی کیشنز** = = = = =
 چلی منزل المرانج سٹر 22 اردو بازار لاہور۔ فون 042-7243301
 Mobiles: 0300-4131901 - 0300-4213406

عملیاتِ ناد علی

- 9 ناد علی کرم اللہ وجہ (عربی متن)
 11 ناد علی.....ایک تیر بہدف دعا (دیباچہ)
 13 قلب حیض.....کثرت حیض.....کثرت حیض کا روکنا
 14 دودھ میں کی.....دودھ میں اضافہ.....حیض جاری کرنا
 15 بچے کیلئے دودھ بڑھانا.....سیلان الرحم کا علاج.....ور پیرو.....دودھ کی قلت
 16 خون حیض ندر کے تو.....استحاضہ کا علاج
 17 مردہ جنین خارج کرنے کیلئے.....قلت حیض کا علاج.....قلت دودھ کا علاج
 18 پیر چھوٹے کا علاج.....دودھ کی قلت
 19 کثرت حیض و نفاس.....دودھ میں اضافہ.....استحاضہ کیلئے.....افزوں شیر کیلئے
 20 امراض رحم کا علاج.....شدت شہوت روکنا.....دودھ میں زیادی
 21 قوت باہ کھولنا.....الفت زوجین کیلئے.....تاراض خاوند کو منانا
 22 میاں یوں میں محبت.....زوجین کی تاراضگی.....جاہز محبت اور نکاح
 23 عمل حب خاص.....قدرت جماع اور اولاد کا حصول
 24 حب احر.....حب احر دوام
 25 حب احر سوام.....خاوند کیلئے محبت.....روٹھے ہوئے کو بلاٹا
 26 ناجاہی دور کرنا.....بے راہ روی ختم کرنا
 27 محبت و مطابقت پیدا کرنا

- حُب زوجین حُب کبریت
28
- حُب کبریت دوئم حُب کبریت سوم حُب کبریت چہارم
29
- تَسْخِير قَلْب تَسْخِير قَلْب دوئم حُب خضری
30
- بد اخلاق خاوند کے لئے
- 31
- بد اخلاق یوی بد گولی سے حفاظت افہب زوجین کا عمل حُب کامل
32
- نا فرمان اولاد یا یوی نا فرمان اولاد اور توگر بد زبان یوی عمل تَسْخِير قَلْب
33
- مرد کی بد زبانی کا علاج عمل نجات عمل نجات دوئم عمل نجات سوم
34
- ملازمت، تعلیم، کندہ ہنی کے لئے
- 35
- اپنا حق پانا
- 37
- لا علاج بیماری کا علاج
- 38
- عمل تَسْخِير قرآن السعدین
- 39
- نا جائز طلب ختم کرنا
- 41
- کبریت احر خاص
- 42
- ز میں اور حکام کے معاملات
- 44
- نیا چاند اور نا علی گا درد ایک نادر عمل برائے فتوحات و محرمات
- 46
- حصول روشن غیری ترقی رزق و برکت
- 47
- تَسْخِير خلائق اعمال ایام بیض ماہ رمضان شریف
- 48
- سورج و چاند گرہن
- 49
- عمل حُب بالی
- 52
- عمل فتوحاتِ دائی
- 55
- عمل برائے وصال
- 56
- عمل قدوسی
- 57

- 61 دفعہ حادث و مصائب صلوٰۃ حاجت
- 62 صلوٰۃ برات الوالدین صلوٰۃ استخارہ سفر صلوٰۃ القضاۓ الدین
- 63 کشش پیدا کرنا وانے اور سرخ نشان
- 64 سخت مصیبٰت دور سختی و مصیبٰت کا علاج غم دور کرنا پوشیدہ حالات جانا
- 65 بندش خواب بد ترقی دینی و دیناوی ہر پریشانی دور ہر دعا قبول ہو
- 66 حصار ناولی بسط زر و مال و کار و پار ہر کام میں برکت
- 67 مرضی کی شادی میاں بیوی میں اتفاق زبان بندی حیاء پیدا ہو
- 68 طلب محظوظ امراض چشم کا علاج ورد کان وصولی قرض
- 69 قرض اتر جائے فقر و فاقہ دور حالات میں بہتری رزق میں غنیٰ امداد
- 70 نقصان سے حفاظت دُخْن کے شر سے حفاظت
- 71 عزت در خلائق عمل حب شجری
- 72 افسران و حکام مہربان تبادلہ روکنا
- 73 عمل ہزارو برائے نکاح
- 74 عامل سوء کا علاج گھر اور دکان کا حصار حب سریع التاثیر
- 75 رنج غم دور کرنا موت کی سختی سے نجات شیطانی اثرات کا علاج
- 76 ہر نقصان سے حفاظت عمل قضاۓ حاجات نیسان کا علاج
- 77 ہر مرخص سے شفاء حفاظت حل عمل کشف قبور
- 78 حیض کی بے اعتدالی حاضرات الارواح حیض کثرت یا درد سے آتا
- 79 بندش حیض رحم کی خارش لیکور یا اور بدبو امراض خیشہ کا علاج
- 80 در دوزہ سے نجات حفاظت حل صاحب اولاد ہونا الہرا کا خاتمه
- 81 بچہ پیٹ میں سوکھ جائے مسان و سوکھاپن بچوں کی ضد
- 82 غلبہ بر دشمنان اسلام انتشارِ عدو جسمانی و روحانی امراض

- الرجی کا علاج دنیاوی مصائب و مشکلات لا علاج مرض کا علاج
 83 جادو نوں سے نجات امراض پیٹ افسران و حکام سے بات منوانا
 84 عمل مقبولیت عامہ
 84 سفر میں حفاظت اسرارِ حقیقی جاننا ناممکن کام ہونا تنجیرِ حقوق تنجیر قلب
 85 فراغی رزق و کاروبار
 86 ہر نقصان سے بچنا پریشانی سے نجات نظر بد کا خاتمہ
 87 ناجائز ضد بیماری سے نجات حفاظتِ حمل عمل کثیر الفوائد
 88 خاتمہ امراض
 89 امراض قلب رعشہ کا علاج درستگی ہاضم غلہ بر دشمن
 90 تنجیرِ حقوقات تنجیر افسران و حکام حصول برکات سلوک و محبت
 91 بد تیز اولاد کا علاج درود کان و ناف درود سرو شفیقت فی بی اور دیگر امراض
 92 ہیئت کا علاج بوائرِ خونی و بادی دروٹی و جسمانی درد خداش و پھنسیوں کا علاج
 93 اولاد پاننا با بجھ پین تعلیمی ترقی امتحان میں کامیابی
 94 لکھت زبان سوکھا کا خاتمہ
 95 مسان و با بجھ پین کا علاج جنات سے نجات
 96 جسمانی و روحانی امراض
 97 جادوی اثرات سے حفاظت ہشریا کا علاج
 98 استقر ار حمل مال کی حفاظت
 99 تنجیرِ الحالائق
 100 جائز کام نکلوانا عمل حبز و جین عمل زیادتی دودھ
 101 اثرات بد سے حفاظت
 102 بد نظری و دخنی جسمانی امراض کا خاتمہ
 103

- 104 درد پسلی کا علاج کمر درد کا علاج درد بدن کا علاج جوزوں کا درد
- 105 بلڈ پریشر و شوگر کا علاج انسیا کا علاج غلبہ بر عدو
- 106 امراضِ چشم شیطان سے نجات کمی نیند
- 107 نزل زکام کا علاج امراضِ جلد کا علاج دروزہ سے نجات
- 108 مقصد میں کامیابی حاسدوں سے حفاظت دشمن کی اصلاح بوایر سے نجات
- 109 استقر ارحمل نجات پا بخوبی
- 110 سرسام و دیگر امراض کینسر کا علاج
- 111 ناویلی کے فوائد کثیر
- 112 چھلہ لوح قرآنی
- 114 عمل و دستِ غیب حصولِ مقصد
- 115 زن و شوہر میں سلوک حصولِ برکت
- 116 کار بائی کلی کیلے نقصان سے حفاظت
- 117 فراخی کار عملِ حفاظت، شیطان
- 118 عمل فتح و نصرت زہر خورانی کا علاج
- 119 عمل اولادِ نریت نجات و سوس
- 120 جسم پر گلٹیاں اور رسولیاں جائز حق حاصل کرنا
- 122 عمل کثیر الفوائد
- 124 عمل وصال و تغیر
- 129 ناجائز تعلقات ختم کرنا
- 131 حصولِ مال و وزر
- 133 اعمال پر ائے نکاح
- 134 تاخیر نکاح سے نجات پسندیدہ جگہ پر شادی

- حصول رشتہ
- 135 شادی میں رکاوٹ دور کرنا..... حسب پند شادی
- 136 پیغام نکاح منظور ہوتا
- 137 نکاح نہ ہو رہا ہوتا..... بھی کی شادی
- 138 حصول رشتہ اور روٹھے کو منانا..... ایک تار عمل برائے نکاح
- 139 منظوری پیغام نکاح..... اجھے بُر کا حصول
- 140 پیغام نکاح کی قبولیت..... حمل نہ کھرنے کے اساب
- 141 با بچھ پن کا علاج..... استقرار حمل..... با بچھ پن کا محرب نقش
- 143 قیام حمل کیلئے..... عمل حصول اولاد..... ایک محرب عمل حصول اولاد
- 144 خورت اور درخت کا شمر آور ہونا..... برائے حمل
- 145 با بچھ خورت کیلئے
- 147 با بچھ پن کا علاج
- 148 نتوش برائے استقرار حمل
- 149 نقش حصول اولاد
- 150 با بچھ خورت حاملہ ہو
- 151 آخر کا علاج..... عمل حصول اولاد
- 152 برائے با بچھ پن
- 154 با بچھ پن اور معمول کے حمل کے لئے چند خاص عملیات
- 155 دریزہ سے نجات اور آسانی وضع حمل..... برائے تسیل ولادت
- 157 دریزہ سے نجات..... عسر ولادت و اور اریول

نَادِ عَلَى

(كرم التدوين)

○

نَادِ عَلِيًّا مَظَاهِرُ الْعَجَائِبِ
 تَجِدُهُ عَوْنَانَ لَكَ مِنَ النَّوَائِبِ
 كُلُّ هِمٍ وَغَمٍ سَيِّنَجَلِنِي
 بِوْلَأِيتِكَ يَا عَلِيًّا يَا عَلِيًّا يَا عَلِيًّا



نادِ علیٰ ۵۰ ایک تیر بہدف دعا

”نادِ علیٰ“ ایک ایسی دعا ہے جو صدیوں سے علمین کے معمولات میں شامل ہے۔ یہ دعا امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اور اس کے فوائد پر بے شمار تحریریں دستیاب ہیں۔

آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہماری شامت اعمال سے ایسی ایسی خرابیوں نے جنم لے لیا ہے جن کا علاج کو اپنے سے بڑے عامل اور حکیم کے پاس ہونا بھی ممکن نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آسانیوں کے قاتل ہو گئے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ در پیش مسئلے کا حل منشوں سیندوں میں سامنے آجائے اور چنگ لگنے نہ مکمل کوئی رنگ بھی چوکھا آئے کے مصاداق پلنے سے کچھ خرچ بھی نہ ہو۔ یہ نیت کرنے کے بعد ہم از خود ایسے جعلی عاملوں کا رخ کرتے ہیں جن کے ہاں پہلے سے شیاطین نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ وہاں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہم شرم کے مارے نہ کسی سے کہہ پاتے ہیں نہ اس کے اثرات سے فک پاتے ہیں۔

اگر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں اور اللہ اس کے جیب بیب ﷺ اور اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑیں تو یقین سمجھے ہمارے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی دم تو زدیں۔ قرآن حکیم، مسنون دعاؤں اور نادِ علیٰ جیسے اسلاف کے معمولات میں وہ قوتِ روحانی نہاں ہے جس کے بارے میں ہم مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی انگشت بدندال ہیں۔ عیسائی راہبات میں سورہ یتیم اور سورہ حزم کی عامل ایسی چند خواتین کے بارے میں تو نہیں خود اخبارات میں پڑھ چکا ہوں جو ان قرآنی

سورتوں سے لوگوں کی بیماریوں کا شانی علاج کرتی ہیں۔ اگر غیر مسلم ہمارے قرآن پاک سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اپنی جسمانی و روحانی بیماریوں سے نجات پا رہے ہیں تو اس میں ہمارے لئے کیا امر مانع ہے؟ اس کا جواب ہے ”صرف اور صرف یقین، اعتقاد اور راخ الایمان ہونے کی کمی۔“

اس کمی کا علاج اگر ہم غیر مسلم عاملوں کے پاس ڈھونڈنے جائیں گے تو ذرا سوچنے کہ دنیا میں تو ذلیل و رسوایوں گے ہی، قیامت کے دن بھی کیا ہمارے دامن دولتِ ایمان سے تباہ ہوں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہو گا۔ تو کیا اس خوفناک صورتحال سے بچنے کے لئے ہمیں اپنے خیر کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہئے؟ شرک سے نہیں بچنا چاہئے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آئیے اپنی اصل کی طرف لوٹ چلیں۔ ناد علیٰ ہماری اصل، ہماری ابتدا، ہماری بیماریوں میں سے ہے۔ اسے اپنائیے۔ اس پر حد امت اختیار کجھے اور پھر دیکھئے کہ اس کے طفیل ہمارا اللہ ہمارا دامن مال و زر، اولاد، خوشحالی، سکون اور فتوحات سے کیسے پُر کر دیتا ہے۔ ناد علیٰ کا ورد اور اس کے حوالے سے اس کتاب میں بیان کردہ اعمال کی صحت اور افادیت کسی تجربے کی نہیں، مختص عمل کی مقاصی ہے۔ کہیں انک جائیں تو جوابی خط لکھئے، خود تشریف لا رائے۔ میں حتی الامکان خدمت کروں گا۔

”جادو آسیب“ سایہ۔ وضاحت اور علاج“ کے بعد روپی پبلی کیشنز کی یہ نادر پیش کش بھی شرک سے حفاظت و نجات اور ایمان و اسلام کی طرف لوٹ آنے کی ایک ایسی دعوت ہے جس پر آپ پہلے ہی صفحے کے مطلعے کے بعد ”لبک“ کی صدایں گے۔ یہ میرا اپنے دین اپنے اسلاف اور ان کے فرمودات پر ایمان و اعتقاد کی نسبت سے یقین ہے جس کی گواہی آپ کے خطوط اور فون دیں گے۔ انشاء اللہ۔

(ہومیوڈاکٹر) ابو علی ارسلان

دوسری منزل راججوت مارکیٹ اردو بازار لاہور

فون: 0333 - 4304938

قلتِ حیض

اگر ماہواری ایام میں کمی ہو۔ حیض مقدار میں معمول سے بہت کم اور تکلیف سے آئے تو نادعلیٰ اور سورہ پیغمبر کی آیات چوتیس تا چھتیں لکھ کر اچھی طرح موم جامد کر کے گلے میں اس طرح لٹکائیں کہ فرش سامنے رہے۔ قلتِ حیض کا مرض جاتا رہے گا۔

کثرتِ حیض

اگر ایام ماہواری کی زیادتی ہو یعنی حیض زیادہ دنوں تک جاری رہے یا معمول سے زیادہ خون کا اخراج اور تکلیف ہو تو اس صورت میں نادعلیٰ اور سورہ ہود کی آیت چوالیں کو لکھ کر اس طرح گلے میں ڈالیں کہ توحید یعنی پر رہے۔ اسی کا پانی دم کر کے بھی پلاں میں۔

کثرتِ حیض کا روکنا

اگر کسی عورت کا حیض بکثرت جاری ہو اور کرنے میں نہ آتا ہو تو باوضواس نقش کو لکھ کر موم جامد کر کے اس پر نادعلیٰ ستر بار دم کر کے عورت کی چوٹی میں باندھے۔ بفضلِ خدا خون بہت جلد رک جائے گا۔

۷۸۶

۲۶۰	۲۶۵	۲۶۲
۲۶۱	۲۶۶	۲۶۷
۲۶۳	۲۶۴	۲۶۸

دودھ میں کمی

اگر بچے کے لئے ماں کا دودھ ناکافی ہو یا ویسے ہی دودھ کم پیدا ہوتا ہو تو بچے والی عورت کو ناداعلیٰ سات بار سورہ بقرہ آیت ۲۳۳، سورہ القمر آیت ۵۲، سورہ النحل آیت ۶۶ ایک بار پڑھ کر تمکہ دم کر کے دیں۔ عورت کھانے میں بھی نمک پکھ روز تک استعمال کرے۔ انشاء اللہ دودھ پڑھ جائے گا۔

دودھ میں اضافہ

اس مقصد کے لئے زیرِ حفید بہت مفید ہے۔ اس پر چالیس مرتبہ سورۃ الکوثر مع بسم اللہ اور چالیس بار ناداعلیٰ اور چالیس بار یا رزاق الطفل الصغیر پڑھ کر دم کر کے دیں۔ عورت اس میں سے روزانہ تمحوزی کی مقدار کثی روز تک کھائے۔ انشاء اللہ دودھ پڑھ جائے گا۔

حیض جاری کرنا

اگر حیض منقطع ہو گیا ہو تو مندرجہ ذیل نقش لکھے۔ اس پر ایک سو ایک بار ناداعلیٰ پڑھ کر دم کرے اور ایک نقش لکھ کر عورت کو کھلائے اور دوسرا عورت کے گلے میں باندھے۔ انشاء اللہ حیض جاری ہو جائے گا۔

۷۸۶

۵۰	۳۱	۳۴	۳۱
۷۲	۹۱	۸۱	۸۲
۹۱	۳۱	۵۰	۳۱
۲۳۱	۲۳۳	۶۷۸	۷۹۰



بچے کے لئے دودھ بڑھانا

اگر عورت کا دودھ بچے کے لئے کافی نہ ہوتا ہو اور بچے بھوکا رہتا ہو تو نادی علیہ مع اسائے الہی ہو الحسی القیوم تین سو بار بڑھ کر عورت کے ہاتھوں پر دم کریں اور وہ اپنی چھاتیوں پر پھیرے اور پانی پر دم کر کے دیں، جسے وہ پی لے۔ انشاء اللہ دودھ کی کمی دور ہو جائے گی۔

سیلان الرحم کا علاج

اگر عورت کے رحم سے رطوبت خارج ہوتی رہتی ہو جسے لیکو ریا یا سیلان الرحم کہتے ہیں تو نادی علیہ عرق گلب یا سادہ پانی پر دم کر کے عورت کو اتنا لیں روز تک پلا میں۔ انشاء اللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔

درد پیڑو کے لئے

اگر عورت کو حمل کے بوجھ کے سبب یا اور کسی سبب سے زیر ناف درد ہو تو باوضو ہو کر نادی علیہ اور سورہ الدھر آیت ۲۸ کو لکھ کر پانی میں گھول کر عورت کو پلاۓ انشاء اللہ درد جاتا رہے گا۔

دودھ کی قلت

نادی علیہ اور سورہ الرعد آیت ۸-۹ کو کاغذ کے دو ٹکڑوں پر لکھے۔ ایک نقش کو دھو کر بچہ والی عورت کو پلاۓ اور دوسرا نقش کو موم جامد کر کے عورت کے بازو پر بندھوائے۔

کثرت حیض روکنا

اگر عورت کا حیض کثیرت جاری رہتا ہو تو عورت کے قد کے برادر یعنی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کے انگوٹھے تک سرخ دھا گا مپ کر دس تار لیں۔ پھر اس پر نادی علیہ

سات بار اور "یا قاہر" گیارہ بار پڑھ کر ایک گردہ لگائیں۔ اسی طرح کل گیارہ گرہیں لگائیں اور گردہ لگاتے وقت پھونک ماریں۔ اس کے بعد وہ گندہ مریض کے پیٹ پر بندھوائیں۔ انشاء اللہ خون کا اور ار بند ہو جائے گا۔

خون حیض نہ رکے تو

اگر عورت کا خون بکثرت جاری ہو تو نادلی اور اسم پاک "یا مانع" کا یہ نقش چار عدد لکھے۔ ان میں سے ایک ایک دونوں ہزاروں پر باندھے ایک عدد سر پر باندھے اور چوتھا نقش پانی میں حل کر کے عورت کو پلاو دے۔ انشاء اللہ خون رک جائے گا۔

یامانع

یامانع	یامانع	یامانع
یامانع	یامانع	یامانع
یامانع*	یامانع	یامانع

استحاضہ کا علاج

اگر بیماری کے سبب یا کسی دشمن کے جادو کرنے کے سبب خون حیض جاری ہو جائے اور کتنے میں نہ آئے یا پچ کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے وہ بکثرت آئے اور نہ رکے۔

اس کے لئے مریض کے قد کے برابر اکتا لیں عدد نیلے یا سیاہ دھاگے کے تار لے کر اس طرح اکتا لیں گرہیں لگائیں کہ ہر گردہ پر نادلی اکتا لیں بار پڑھ کر پھونکے اور گردہ لگائے پڑھوئے اور آخر میں اکتا لیں بار درود شریف پڑھئے۔ پھر اس گندہ کو مریض کی کمر میں باندھئے۔ خون استحاضہ بند ہو جائے گا۔

مردہ جنین خارج کرنے کے لئے

اگر کسی سبب سے بچہ پیٹ میں مر گیا ہو تو مندرجہ ذیل نقش اور اس کے گرد سات بار ناد علیہ باوضو ہو کر لکھنے اور گھول کر عورت کو پلانے۔ انشاء اللہ مردہ بچہ آسانی کے ساتھ پیٹ سے خارج ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ح	ح	ح	ع	ع	و	و	ظ
کہ	کہ	کہ	او	او	کہ	کہ	رو

قلت حیض کا علاج

بعض اوقات عورت کا ماہواری خون کسی خاص سبب سے بند ہو جاتا ہے یا بہت ہی قلیل آتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کے دماغ پر بوجہ بہت بڑھ جاتا ہے اور بعض اوقات بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔

اس کے علاج کے لئے عورت کے قد کے برابر نیلنے سیاہ یا کسم کے رنگے ہوئے دھانگے کے اکتالیں تار لے کر ان کا ایک گندہ تیار کیا جائے۔ ناد علیہ ایک سو ایک بار پڑھ کر پھونک مار کر ایک گردہ لگائیں۔ اسی طرح اکتالیں گردہ لگائیں۔ اس گندہ کو عورت کی کمر پر بندھوائیں۔ مریضہ کا خون حیض جاری ہو جائے گا اور صحت یاب ہو جائے گی۔ جب مناسب مقدار میں خون کا ادرار ہو چکے تو گندہ کھول دیا جائے۔

قلت دودھ کا علاج

اگر کسی عورت کے پستانوں میں دودھ کم ہو اور اس کا بچہ سیر نہ ہو سکتا ہو تو سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۲ اور ناد علیہ سات بار پڑھ کر نمک پر دم کر کے دیں اور کم دودھ والی عورت وہ نمک کھانے میں استعمال کرے۔ انشاء اللہ دودھ بہت ہو گا۔

پیر چھوٹے کا علاج

اگر کسی عورت کا حیض بکثرت اور غیر معمولی آرہا ہو جائے عرف عام میں پیر چھوٹا
بھی کہتے ہیں تو یہ نقش باوضو ہو کر لکھ کر اس پر ناد علیٰ ستر بار دم کریں اور مومن جامد کر کے
عورت کی چھوٹی میں پاندھ دیں۔ خون بند ہو جائے گا۔

۷۸۶

۱۳	۲۸	۸	۳	۱۷
۲۰	۸	۱	۱۳	۲۲
۷	ع	نام مریضہ	ع	۱۹
۲۰	۱۲	۱۳	۸	۶
۱۱	۲۳	۱۷	۱۰	۳

دودھ کی قلت

اگر عورت کی چھاتیوں میں دودھ کم ہو اور بچہ بھوکا رہ جاتا ہو تو مندرجہ ذیل نقش کو
باوضو ہو کر عرق گلاب و زعفران سے لکھئے اور اس پر ناد علیٰ نوے بار دم کر کے عورت کے
گلے میں مومن جامد کر کے لٹکائے اور سات مزید نقش لکھ کر روزانہ ایک نقش گھوول کر عورت کو
پلاۓ۔ اثناء اللہ اس کی چھاتیوں میں بچے کے لئے بہت دودھ ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۷۰۲۷	۷۰۳۰	۱
۷۰۲۹	۳	۷	۷۰۲۸
۳	۷۰۳۲	۷۰۲۵	۶
۷۰۲۶	۵	۳	۷۰۳۱

کثرت حیض و نفاس

بعض اوقات عورتوں میں حیض معمول سے زیادہ دنوں تک یا بہت زیادہ اخراج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح خون نفاس بہت زیادہ عرصہ کے لئے جاری رہے تو اس کے لئے سورہ ہود کی آیت ۲۳، سورہ ملک کی آیت ۱۳۰ اور نادِ علیٰ گو باوضو ہو کر زعفران و عرق گلاب سے لکھ کر مریضہ کو پلانے۔ انشاء اللہ فوراً آرام ہو گا۔

دودھ میں اضافہ کے لئے

اگر عورت کا دودھ کم ہو یا کم ہو گیا ہو اور بچہ شکم سیرنہ ہوتا ہو تو سورہ یقرہ کی آیت ۶۰ اور نادِ علیٰ گو باوضو ہو کر زعفران و گلاب سے سات عدد کاغذ کے ٹکڑوں پر نقش کی طرح لکھ لیں۔ روزانہ ایک عدد نقش کو پانی میں گھول کر عورت کو پلاٹ میں تو دودھ بڑھ جائے گا۔ انہی آیات اور نادِ علیٰ کو کھانے پینے کی چیز پر اول و آخر درود شریف اور درمیان سات سات بار پڑھ کر کھلاتے یا پلاتے رہیں تو بھی دودھ میں اضافہ ہو جائے گا۔

استحاضہ کے لئے

کاغذ کے تین پر چوپ پر نادِ علیٰ اور سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۲ کو لکھ کر ایک پر چہ سر پر ایک بازو پر ایک سینے پر باندھیں۔ اگر تکسیر بندت ہو رہی ہو تو یہی نقش لکھ کر ناک پر دونوں آنکھوں کے درمیان باندھیں۔

افزونی شیر کے لئے

جس عورت کے دودھ کم ہو اور بچہ کا پیٹ نہ بھرتا ہو تو نادِ علیٰ مجمع بسم اللہ اور سورہ نبیین آیت ۷۲۔ ۷۳۔ باوضو لکھ کر عورت کے گلے میں لٹکا میں اور سات دن تک روزانہ ایک عدد گھول کر عورت کو پلاٹ میں انشاء اللہ دودھ افراہ ہو جائے گا۔

☆ اگر کسی عورت کا دودھ خشک ہو گیا ہو تو نادِ علیٰ اور سورہ محمد کی آیت پندرہ لکھ کر

عورت کے گلے میں ڈالے اور انہی آیات کو دھو کر اس پانی سے عورت کا سینہ دھو کر پانی کو کسی محفوظ دیوار پر چھپ کر نہایت مفید ہے۔

امراض رحم کا علاج

اگر کوئی عورت امراض رحم میں بستا ہو خواہ امراض کسی قسم کے ہوں۔ تو تادِ علیٰ اور سورہ النجم، زعفران سے لکھ کر گھول کر پلاتا نہایت مفید ہے۔ امراض رحم سے نجات مل جاتی ہے اور اسی سورہ اور تادِ علیٰ کو یامِ حل میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ کے فضل سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔

شدت شہوت روکنا

اگر عورت یا مرد پر شہوت کا غلبہ ہو اور گناہ کا ذرہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ اسماے پاک جن میں چھوٹی ”یٰ“ آتی ہے۔ مثلاً حیم، کریم، خبیر، علیم، حلیم وغیرہ شروع میں پوری بسم اللہ اور تادِ علیٰ لکھ کر وہ اسماے پاک کسی چیزی کی پلیٹ میں لکھ کر دھو کر صبح کے وقت سات دن تک پلاسیں۔ انشاء اللہ غلبہ شہوت جاتا رہے گا۔ اور اگر سورۃ النور کو لکھ کر آب زرم سے دھو کر چیزے تو بھی شہوت جماع منقطع ہو جائے گی۔

دودھ میں زیادتی

اگر بچے والی عورت کا دودھ کم ہو تو تادِ علیٰ اور سورہ السجدة آیت ۷۶ تا ۹۰ کو چینی کی پلیٹ پر لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر پلاسیں اور نصف پانی اس کے کھانے میں ملا دیں۔ سات روز تک اسی طرح عمل کریں انشاء اللہ فائدہ ہو گا۔

زوجین کی ناراضگی دور کرنا

اگر میاں بیوی میں آئے دن تو تکار ہوتی رہتی ہو تو اس کی درستی کے لئے سورہ ججرات آیت ۱۳، سورہ ابراہیم آیت ۱۲۵ اور تادِ علیٰ پانی دودھ یا کھانے کی کسی چیز پر پڑھ

کرمیاں یہوی کو کھلا میں تو ان میں موافق ہو جائے گی؛ جھگڑا ختم ہو جائے گا انشاء اللہ۔

قوت باہ کھولنا

بعض اوقات سحر وغیرہ کے ذریعے آدمی کی جنسی بندش کر دی جاتی ہے اور وہ اپنی یہوی کے ساتھ مجامعت پر قادر نہیں رہتا۔ بندش کھولنے کے لئے کسی پاک صاف برتن میں پوری سورہ مینہ اور نادِ علیؑ پا و خصو ہو کر لکھئے اور پانی سے دھو کر مرد کو پلاۓ۔ تین دن ایسا ہی کرے۔ انشاء اللہ بندش ختم ہو جائے گی۔

الفت زوجین کے لئے

اگر میاں یہوی میں ناراضیگی ہو تو مندرجہ ذیل نقش کے گرد اگر نادِ علیؑ کا کھر طرفین میں سے جس کو ضرورت ہو اپنے دائیں بازو پر بامدھ لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ میاں یہوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور وہ صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے۔ نقش یہ ہے۔ پہلے فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام لکھیں جس کی محبت مطلوب ہے۔ اور دوسرا جگہ جس کے لئے مطلوب ہے۔ نام اور والدہ کا نام)

۵۲۵۰	۵۲۵۳	۵۲۵۶	و۲۲۳
و۲۵۵	۵۲۳۳	و۲۳۹	۵۲۵۳
و۲۳۵	۵۲۵۸	و۲۵۱	۵۲۳۸
۵۲۵۲	و۲۳۷	۵۲۳۶	و۲۵۴

ناراض خاوند کو منانا

اگر کسی سبب خاوند ناراض ہو جائے اور یہوی کی طرف توجہ نہ دے تو یہوی گیارہ عدد مرچوں پر باوضو ہو کر گیارہ بار درود شریف، گیارہ تسبیح اسمائے الہی، یا الطیف یا ودود، ایک ہزار گیارہ بار نادِ علیؑ اور آخر پر دوبارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر مرچوں پر دم

کرے۔ پڑھنے کے دوران خاوند کے مہربان ہونے کا خیال کرے اور پھر وہ مرچیں تیز آگ میں پھینک دے۔

اسی طرح چالیس دن مسلسل کرے۔ اگر ناغہ ہو جائے تو ناغہ کے دن بعد میں پورے کرے۔ انشاء اللہ خاوند مہربان ہو گا اور محبت اور توجہ کرنے لگا۔

میاں بیوی میں محبت

اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو دوسرا سے نفرت ہو جائے تو اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل کرنے کے لئے ناد علیٰ اور سورہ ط آیت ۳۹۔ ۴۰ لکھ کر محبت اپنے پاس رکھے اور انہی آیات کو مٹھائی یا کسی شیریں چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلانے۔ پہلے فلاں کی جگہ مطلوب کا نام مدد مان کے نام اور دوسرا فلاں کی جگہ طالب کا نام مع مان کا نام لکھے یا پڑھے۔

زوہین کی ناراضگی

اگر زوہین ایک دوسرے سے ناراض رہیں اور آپس میں رغبت کم ہو تو کسی شیرینی پر سات مرتبہ ناد علیٰ اور سورہ الفجر آیت ۱۹۔ ۲۰ دم کر کے زوہین کو کھلائیں تو دونوں میں اتفاق اور محبت ہو جائے۔

زوہین میں محبت

زوہین میں الفت و محبت کے لئے شیرینی پر سات سو مرتبہ ناد علیٰ اور سورہ ط آیت ۳۹ پڑھ کر دم کرے کھلائیں لیکن صرف جائز مقام پر موثر ہو گا۔ غلط جگہ استعمال کرنے سے نقصان ہو گا۔

جائز محبت اور نکاح

زوہین کی محبت کے لئے ایسے دعویٰ یہ لکھے۔ دونوں پر ناد علیٰ ستر ستر

پار اور سورہ ط آیت ۳۹۔ ۴۰ ایک ہزار بار پڑھ کر دم کر لے۔ ایک تجویز زوجین میں سے جو طالب ہو وہ اپنے پاس رکھے (مرد ہو یا عورت) اور دوسرا تقش انار کے درخت پر بندھوا میں تاکہ ہوا سے حرکت کرتا رہے۔

۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۶	۲۰۰۲
۲۰۱۵	۲۰۰۳	۲۰۰۸	۲۰۱۳
۲۰۰۳	۲۰۱۸	۲۰۱۱	۲۰۰۷
۲۰۱۲	۲۰۰۶	۲۰۰۵	۲۰۱۷

عمل حبِ خاص

بعض اوقات میان بیوی میں تو ٹکار ہو جاتی ہے کبھی خاوند اور کبھی بیوی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ فریقین میں سے جس کی زیادتی ہواں کا نام لکھ کر اس کے اعداد ابجد قمری کے حساب سے معلوم کریں۔ عدد کے برابر تعداد میں ناد علیہ اور اسم الہی یا جامع کا درست فریق ٹانی کرے۔ یا کوئی دوسرا شخص مغلص اس طریقے کے مطابق ورد کر کے پانی یا شیرینی پر دم کر کے طرفین کو پلاٹے یا کھلانے۔

★ اگر میان بیوی میں آئے دن جھگڑا رہتا ہو یا گھر کے افراد آپس میں عموماً جھگوتے رہتے ہوں تو ناد علیہ اور سورہ انفال آیت ۶۳ کو کھانے پینے کی اشیاء پر دم کر کے بکثرت کھلائیں پائیں۔ انشاء اللہ گھر کے افراد یا خاوند بیوی کے درمیان نفرت ختم ہو جائے گی۔

قدرتِ جماع اور اولاد کا حصول

بعض اوقات بوجہ بندش و سحر خاوند بیوی کے ساتھ جماع پر قادر نہیں ہوتا اور اس طرح جوڑا بے اولاد رہتا ہے۔ ایسی صورت میں دو ائمہے اباں کر چکلا دو رکریں۔ پہلے

انٹے پر سورۃ الذاریات کی آیت نمبر ۲۷ اور نادر علی لکھیں۔ دوسرے انٹے پر آیت ۲۸ لکھیں۔ اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھیں اور درمیان میں تین بار آیت پڑھ کر دونوں انٹوں پردم کریں۔ اس کے بعد پہلا انٹا مرد کو کھانے کے لئے دیں اور دوسرا انٹا اغورت کو کھلائیں۔

یہ مسلسل چالیس دن جاری رکھیں اس دوران زوجین وظیفہ زوجیت بھی ادا کریں۔ انشاء اللہ حصول اولاد میں کامیاب ہوں گے۔

حُبِّ الْأَحْمَرِ

زوجین میں تو تکار کا سبب زوجین میں سے کسی ایک کے رو یہ میں بے جانتی یا ان میں سے کسی ایک یا دونوں کے والدین کی بے جانوک جھونک ہوتی ہے۔ حکمت عملی سے اسہاب کا ازالہ کریں اور نادر علی ستر پار اور درج ذیل اسامیے پاک کو اول و آخر درود شریف سات سات مرتبہ کے ساتھ پڑھ کر عطر گلاب پردم کریں اور زوجین کا نام بھی لیں اور وہ عطر کسی طور مطلوب کو سوچنا میں۔ انشاء اللہ ان میں الفت بڑھے گی۔ اسامہ پاک یہ ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا حَمِيمِ يَا قَوْمَ يَا لَطِيفِ يَا وَدِودِ

حُبِّ الْأَحْمَرِ دُوْمُ

اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو تو زوجین میں سے جسے ضرورت ہو یہ نقش لکھ کر اس پر ایک سو ایک بار نادر علی دم کر کے اپنے پاس رکھے یا دا کمیں بازو پر باندھے انشاء اللہ زوجین میں محبت بڑھ جائے گی۔

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

حُبِّ الْحَرَمَةِ سُوْمَ

اگر میان بیوی میں سے کوئی فریق ناراض ہو اور متوجہ نہ ہوتا ہو تو مندرجہ ذیل نقش لکھ کر اس پر سات سو ستر بار ناد علیٰ دم کرے اور کسی بلند مقام درخت وغیرہ پر لٹکائے تاکہ ہوا سے بلتا رہے بہت جلدی مطلوب غلبہ محبت کے تحت حاضر ہو گا۔

نام طالب	۱۳۳	۱۱۰	۷۷
۱۲۱	۶۶	۱۳۲	۲۲
۵۵	۸۸	۱۲۵	۲۲
۱۵۳	۳۳	۲۲	۹۹

خاوند کے لئے محبت

اگر خاوند بیوی سے ناراض ہو اور سخت گیر ہے تو درج ذیل عبارت کاغذ کے دو نکزوں پر زعفران و گلاب سے لکھئے۔ اس کے گرد اگر دناد علیٰ سات بار تحریر کرے۔ ان میں سے ایک نقش موم جامد کر کے عورت اپنے بائیں بازو پر باندھئے اور دوسرا نقش دھو کر کسی کھانے یا پینے والی شے میں پلاۓ۔ دونوں میں ہمیشہ محبت قائم رہے گی۔ عبارت یہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ عَدْمِ عَلَيْكَ بِقَدْرِ رَأْيِكَ لِفَلِيلٍ وَحَرَمَةٌ مُحَمَّدٌ مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَرَمَةِ مَوِيْكَ لَكِيمُ اللَّهُ وَحَرَمَةِ عَيْسَى رُوحُ اللَّهِ فِلَالِ بْنِ فِلَالِ (مطلوب مع نام والدہ) علیٰ حب فلال (طالبہ کا نام مع والدہ)

روٹھے ہوئے کو بلا نا

اگر زوجین میں سے کوئی مثلاً بیوی چلی گئی ہو تو درج ذیل نقش کو کاغذ پر لکھئے۔

اس پر ناد علیٰ ایک سوتھ بار پڑھ کر دم کرے اور یچے طالب اور مطلوب کے نام مع نام والدہ لکھئے اور رات کو سوتے وقت نقش کو اپنے تکیے کے یچے رکھ کر سوئے۔ تکیے پر سر کا بوجھ آئے گا تو یہوی کو بے قراری ہو گی اور اسے خاوند کی شکل نظر آئے گی۔
بہتر ہے کہ نقش لکھنے کے تمام آداب کا خیال رکھ کر نقش لکھئے۔ نہایت موثر نقش ہے۔ صرف اپنی یہوی کے لئے عمل کرے ورنہ جتنی ہو گا۔

۶	یابدوح	یابدوح	یابدوح	۲
۷	یابدوح	۱	یابدوح	۳
۳	یابدوح	یابدوح	یابدوح	۵

فلاں بن فلامہ (یہوی کا نام)

علیٰ حب فلاں بن فلاں (خاوند کا نام)

ناچاقی دور کرنا

اگر میاں یہوی میں بھگڑا اور ناراضگی رہتی ہو تو گلب کے پھول پر سورۃ القریش (پارہ ۳۰) اور ناد علیٰ سترہ سو بار اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور کسی طرح وہ ناراض فریق کو سونگھا یا جائے۔ اللہ کے فضل سے دل میں نزی پیدا ہو کر ناراضگی جاتی رہے گی۔ ہر بار سورۃ اور ناد علیٰ لو بسم اللہ سمیت پڑھا جائے۔

بے راہ روی ختم کرنا

اگر کسی عورت کا خاوند آوارہ مزاج ہو، گھر سے باہر مصروفیات رکھے اور گھر کا رخ نہ کرے تو ناد علیٰ اور سورۃ البقرۃ آیت ۱۶۵ الکھ کر عورت اپنی چوٹی میں باندھے اور بھی آیت کسی میٹھی چیز پر دم کر کے خاوند کو کھلانے تو شوہر راہ راست پر آ جائے گا۔



محبت و مطابقت پیدا کرنا

بعض اوقات خاوند یوی سے اور بعض اوقات اس کے الٹ لیجنی یوی خاوند سے ناراض رہتی ہے اس طرح ان کی چیلش کے سب گھر کا ماحول کشیدہ اور مکدر ہو جاتا ہے جس کے اثرات نہ صرف بچوں پر بلکہ پورے خاندان پر پڑتے ہیں۔ اسی صورت زوجین میں سے جسے بھی پیش آئے وہ اس وظیفہ پر عمل کرے۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بیان قمری ماہ شروع ہو تو اس کے ابتدائی ایام میں شروع کرے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اس ترتیب سے وظیفہ شروع کرے۔

۱۔ درود شریف گیارہ مرتبہ

۲۔ نادی علیٰ ۱۰ مرتبہ

۳۔ حالات کی درستی اور باہمی محبت کے لئے دعا بڑے خشوع و خصوع سے مانگ۔

۴۔ درود شریف گیارہ مرتبہ۔

وظیفہ تم ہونے پر پہلے سے پاس رکھے پانی کو دم بھی کر دیا جائے اور وہ پانی زوجین پی بھی لایا کریں۔

اس کے ساتھ مندرجہ ذیل نقش گلاب و زعفران سے دو عدد لکھ کر ان میں سے ایک نقش اگر عورت طالب ہے تو گلے میں پہنئے اور اگر مرد طالب ہے تو دو میں بازو پر پاندھے اور دوسرا تعلویہ پانی میں گھوول کر دوسرے فریق کو پلایا جائے۔ انشاء اللہ زوجین میں محبت ہوگی۔ یاد رہے کہ نقش اسم پاک ”علی“ کا ہے۔

۷۸۶

۲۷	۳۰	۳۳	۲۰
۳۲	۲۱	۲۶	۳۱
۲۲	۲۵	۲۸	۲۵
۲۹	۲۳	۲۳	۳۳

الحب (مطلوب کا نام مج والدہ) علی حب (طالب کا نام مج والدہ)

حُبِ زوجین

اگر کوئی خاوند بیوی کے لئے محبت کا اظہار نہ کرے تو بیوی کو مندرجہ ذیل نقش باوضو لکھ کر دیں کہ وہ اس پر روزانہ ایک سو ستر بار نادلی پڑھ کر دم کیا کرے اور گلے میں لٹکائے یا بازو پر باندھے۔ اس کا شوہر اس پر مہربان ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

۲۵۰	۲۵۳	۲۵۶	۲۳۳
۲۵۵	۲۳۳	۲۳۹	۲۵۳
۲۲۵	۲۵۸	۲۵۱	۲۳۸
۲۵۲	۲۳۷	۲۳۶	۲۵۷

دیگر

سورہ نیشن کی آیت ۱۹ اور نادلی کو ایک سو نو بار سفید رنگ کی مٹھائی پر پڑھ کر دم کر کے عورت اپنے خاوند کو کھلانے تو وہ اس کی محبت کا دم بھرنے لگے اور اپنی بیوی کے سوا کسی کا نام نہ لے۔

دیگر

نادلی کو باوضو ہو کر ایک ہزار سترہ بار لکھ کر عورت موم جامد کر کے اپنے گلے میں ڈال لے اس کا خاوند محبت اور موافق رہے گا۔

حُبِّ کبریٰۃ

زوجین میں سے جس کو بھی اپنے ساتھی کی محبت زیادہ مطلوب ہو باوضو نادلی کی لفظی عبارت کو لکھ کر موم جامد کرے۔ مرد اپنے دائیں بازو پر اور عورت دائیں بازو یا چوپنی پر باندھئے۔ عورت خاوند کے یا اپنے مستعمل کپڑے میں موم جامد کرنے کے بعد لپیٹ

کر استعمال میں لائے۔

بیوی، شوہر والدین، بہن بھائی یا اولاد یعنی کوئی بھی فرد محبت یا اپنے فرائض کی طرف سے لا پرواہ ہوں تو نادِ علیٰ^۱ کو بعد از نماز روزانہ ایک سونو بار چالیس روز تک پڑھ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف ضرور پڑھے۔ اس کے بعد کھانے کی کسی چیز مثلاً مٹھائی، بادام، کھجور، یا کشمش وغیرہ پر تہتر (۷۳) بار پڑھ کر دم کر کے مطلوب کو کھلائے۔ وہ انشاء اللہ محبت اور اطاعت کا اظہار کرے گا۔

گھر کے افراد بیوی، شوہر والدین، اولاد، بہن یا بھائی کی محبت کے لئے اسی لیس روز تک نادِ علیٰ نماز عشاء کے بعد تین سو بار روزانہ پڑھے۔ اول و آخر ایکس ایکس بار درود شریف پڑھے۔ اگر مطلوب دور ہو تو اس کے گھر کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اگر گھر میں ہی ہو تو اس کا تصور کر کے پڑھے۔

حُبِّ كَبْرِيَتِ دُوَم

اگر زوجین میں ناراضگی ہوتا نادِ علیٰ باوضو ہو کر چالیس بار پڑھ کر کسی شربت یا شیرینی یا میوه پر دم کر کے مطلوب کو کھلائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف جائز جگہ پر کام ہو گا۔

حُبِّ كَبْرِيَتِ سُوْمُم

اگر گھر میں بیوی شوہر یا اولاد میں سے کوئی ناراض ہو تو اس کے لئے اول و آخر پانچ پانچ بار درود شریف اور درمیان میں سات بار نادِ علیٰ پڑھ کر شکر، چینی یا نمک پر دم کر کے مطلوب کو کھلائیں اور متعدد بار ایسا کریں۔ انشاء اللہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔

حُبِّ كَبْرِيَتِ چَهَارَم

زوجین میں محبت والفت کے لئے عروج ماہ پیغمبر کے دن ہر ن کی جملی پر عرق توت یا گلاب وزعفران سے نادِ علیٰ^۲ اور سورہ آل عمران کی آیات ۱۰۲-۱۰۳ لکھیں۔ اس کے

بعد زوجین میں سے وہ فریق اسے پہنچ جو زیادہ چاہتا ہے جسی طالب اپنے پاس رکھے۔

تغیر قلب

اگر بیوی کسی سبب سے خاوند سے محبت کا اظہار نہ کرے یا انفرت کرتی ہو تو کمل سورہ یوسف کے گرد تاد علیؑ لکھ کر خاوند اپنے دامیں بازو پر باندھے۔ اگر سورہ یوسف کا عددی نقش لکھ کر باندھے تو بھی موثر ہے۔ گلاب و زعفران سے نقش لکھا جائے۔ سورہ یوسف کے کل عدد ۳۹۸۰ یعنی ۵۰۳۹ ہیں۔ اس کا نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۲۵۹۹۷	۱۲۵۹۹۸	۱۲۶۰۰۱	۱۲۵۹۸۷
۱۲۶۰۰۰	۱۲۵۹۸۸	۱۲۵۹۹۳	۱۲۵۹۹۹
۱۲۵۹۸۹	۱۲۶۰۳	۱۲۵۹۹۶	۱۲۵۹۹۲
۱۲۵۹۹۷	۱۲۵۹۹۱	۱۲۵۹۹۰	۱۲۶۰۰۲

تغیر قلب دوم

اگر میاں بیوی میں ناچاٹی ہو یا جھگڑا رہتا ہو تو تاد علیؑ اور سورہ یوسف آیت ۲۱۔ سورہ یوسف آیت ۳۰۔ سورہ العادیات آیت ۸۔ سورہ بقرہ آیت ۱۶۵۔ ایک بار لکھ کر طالب بازو پر باندھے اور ایک دھوکر طرفین کو پلاٹیں۔ لکھتے وقت پہلے فلاں کی جگہ مطلوب اور علی حب کے بعد طالب کا نام مج والدہ لکھا جائے گا۔

☆ زوجین میں محبت کے لئے کسی میشی چیز پر تاد علیؑ ایکس بار دم کر کے فریقین کو کھلائیں۔

حبِ خضری

زوجین میں محبت کے لئے تک کی سات کنکریاں ہیں۔ پھر ہر کنکری پر سورہ

لیئین اور نادِ علیٰ پڑھیں اور ہر بار فلاں بن فلاں (مطلوب) علی حب فلاں (طالب) کہیں پھر ان کلکریوں کو آگ میں ڈالتے جائیں۔

بد اخلاق خاوند کے لئے

اگر کسی عورت کا خاوند بد اخلاق اور بد مزاج ہو۔ بیوی سے مٹکبرانہ پیش آتا ہو تو وہ عورت روزانہ تین سو بار نادِ علیٰ اور اسم پاک "یا باسط" مع اول و آخر درود شریف طاق عدد میں پڑھ کر پانی پر دم کرے یا کھانے کی کسی چیز پر دم کرے اور خاوند کو پانے کھلانے۔

یہ عمل کم از کم تین دن کرے۔ انشاء اللہ خاوند اس عورت کے سامنے بد مزاجی اور بد اخلاقی تکر سکے گا اور ایچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔

ویگر

اگر کسی عورت کی برائی اس کی ساسی یا تندیں اس کے خاوند کے سامنے بیان کرتی ہوں جبکہ وہ برائی اس میں موجود نہ ہو یا ویسے ہی لگائی بھجاتی کرتی ہوں۔ یا غلام یا ملازم کی برائی آقایا حاکم کے سامنے بیان کی جاتی ہو تو وہ عورت یا نوکر یا ملازم نادِ علیٰ اور سورہ بقرہ آیت ۷۲ کو روزانہ ایک سو دفعہ سات دن تک پڑھے۔

جب آیت کو سو بار پڑھ چکے تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور مخالفت کرنے والوں کا تصور کر کے صرف یہ جملے دعائیں کہے۔

اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعيذ بك من شرورهم
انشاء اللہ شکایت کرنے والے بازا آ جائیں گے۔

ویگر

اگر کسی عورت کے خاوند نے کسی ناجائز عورت سے تعلق قائم کر رکھا ہو تو اس خاوند کو نادِ علیٰ "مع سورۃ المائدہ" کی آیت ۱۰۰، ایک ہزار بار روزانہ پڑھ کر گیارہ دن تک

پانی یا کھانے کی چیز پر دم کر کے پلانے کھلانے۔ انشاء اللہ اس ناجائز عورت سے خود بخود نفرت پیدا ہو جائے گی۔

بد اخلاق بیوی کے لئے

اگر کوئی عورت بد اطوار ہو اور اس کی اصلاح مقصود ہو تو روزانہ سورہ نساء کی آیت ۲۳ کو کسی کھانے یا چینے والی چیز پر دم کر کے اس عورت کو گیارہ دن تک کھلائیں یا پلاںیں۔ انشاء اللہ اس کے اخلاق درست ہو جائیں گے۔

بد گوئی سے حفاظت

اگر کسی عورت کو اس کا خاوند یا ساس سر و غیرہ برداشتہ ہوں اور طعن و تشنیع کرتے ہوں یا کسی کو دنیا دار برداشتہ ہوں تو وہ ناد علیٰ سات پار اور سورہ الحجر آیت ۶۵ کو فخر کی نماز کے بعد ایکس دن تک روزانہ ایک سو سات مرتبہ پڑھے اول و آخر درود شریف کا اضافہ کرے۔ آیات جلالی ہیں احتیاط کرے اور سخت ضرورت کے وقت پڑھے۔ معمولی بات پر ایسا نہ کرے۔

الفت زوجین کا عمل

اگر میاں بیوی میں تاراضی ہو ان میں یا کوئی سے درود ٹھنے ہوئے افراد میں صلح اور ملأپ کرنا مقصود ہو تو صحیح کی نماز کے بعد تین دن تک روزانہ ایک سو ایکس پار ناد علیٰ ۶۵ اور سورہ الحجر آیت ۶۵ کی چیز پر دم کر کے روٹھنے یا لڑائے ہوئے کو کھلانے اور پڑھنے کے بعد دعا بھی کرے کہ اللہ ان میں سلوک اور محبت پیدا فرمادے۔

حبِ کامل

میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لئے ناد علیٰ اور سورہ الروم کی آیت ۲۱ سات سو سات مرتبہ روزانہ سات دن تک پڑھ کر پانی یا کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے

پلانے۔ کھلائے۔ زوجین میں سے جس کو محبت مطلب ہو وہ دوسرے فریق کو کھلائے۔ پلانے۔ نہایت مجبوب عمل ہے۔ نیک نتیجی اور خلوص شرط ہے۔

نافرمان اولاد یا بیوی

اگر کسی کی اولاد یا بیوی نافرمان ہو اور انہیں تائیخ فرمان بنانا ہو تو اس مقصد کے لئے اکیس روز تک عشاء کی نماز کے بعد یا تجھ سو پانچ و قدر روزانہ نادِ علیٰ اور سورہ فرقان آیت ۲۷ پڑھ کر اس کے چہرے پر دم کیا کرے۔

نافرمان اولاد اور نوکر

اگر بیٹی یا بیٹا یا توکر بھاگ بھاگ جاتا ہو اور والدین کی اطاعت نہ کرتا ہو تو اس کو مطلع اور فرماتیردار بنانے کے لئے نادِ علیٰ اور سورہ الاحزاب آیت ۷۔ ۸ کو تین سوتیرہ بار پانی پر دم کر کے پلانا یا کھانے کی چیز پر دم کر کے کھلانا یا بطور تعویذ گلے میں ڈالنا بہت مفید و مجبوب ہے۔

بدزبان بیوی

اگر کسی شخص کی بیوی بدچلن اور بدزبان ہو اور شوہر کی اطاعت سے باہر رہتی ہو تو وہ شخص نادِ علیٰ اور سورہ الاحزاب کی آیات ۳۲۔ ۳۳ گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر دم کر کے عورت کو پلانے۔ انشاء اللہ خاوند کی فرماتیردار بن جائے گی۔

عمل تسخیر قلب

اگر میاں بیوی اکثر ناراض رہتے ہوں تو ان میں محبت کے لئے کسی شیرینی پر اکیس مرتبہ نادِ علیٰ اور سورہ لفظ کی آیات ۸۔ ۱۰ کو پڑھ کر دم کریں۔ طرفین کو یا جس کی محبت حاصل کرنا مقصود ہو اسے کھلائے۔ تین بار یہی عمل کیا جائے۔ انشاء اللہ مقصود حاصل ہو گا۔

مرد کی بذبائی کا علاج

جس عورت کا خاوند بذبائی ہو۔ گالیاں بکتا ہو اور وہ عورت چاہے کہ مرد گالیاں بکنا بند کر دے تو وہ عورت روزانہ گیارہ سو مرتبہ گیارہ دن تک نادِ علیٰ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خاوند کو پلانے انشاء اللہ مرد کے اخلاق درست ہو جائیں گے۔

عمل نجات

اگر عورت کا نیا خاوند کی برائی کے بسب نہ ہو سکے۔ عورت طلاق لینا چاہتی ہو مگر خاوند طلاق نہ دیتا ہو تو وہ عورت روزانہ سورہ محکمہ کو گیارہ مرتبہ اور نادِ علیٰ کو ایک سو گیارہ بار گیارہ دن تک پڑھنے انشاء اللہ ضرور اس بات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی۔

عمل نجات دوم

اگر کسی شخص کا کسی بری عورت سے تعلق ہو گیا ہو اور اس تعلق کو ختم کرنا مقصود ہو تو نادِ علیٰ اور سورہ مجادلہ کی آیت ۲۲ کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر دعا کرنا اور پانی پر دم کر کے پلانا اور سات دن مسلسل اس عمل کو کرنا نمی ہے۔

عمل نجات سوم

اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے جدا ہونا چاہتی ہو اور سبب کوئی بھی ہو تو وہ ایک کاغذ پر زعفران سے نادِ علیٰ دائرے کی صورت میں اور سورہ الانفطار کی آیت ۱۹ الکھ کر کسی درخت پر لٹکائے۔ اس کا مقصود حاصل ہو گا۔

عمل الکھ کر نیچے لکھ کر:

"اللّٰهُ قلَّا مَرْدُكَا اعْتِيَارٌ قلَّا عَوْرَتٌ سَعَى اِلَّا لَهُ"

انشاء اللہ تھوڑی ہی مدت میں مطلب پیدا ہو جائے گا۔



ملازمت، تعلیم، کندھنی کے لئے

حصول ملازمت یا ترقی کے لئے نقش تیار کیا جاسکتا ہے اس امر کے جس آیت کا نقش ہے اس کے اعداد ۲۲۳۶ ہیں۔ ایک مرقع نقش ذوالکتابت تیار ہوگا۔ خانہ نمبر ایک میں اپنا نام مع والدہ خانہ نمبر ۶ میں مقصد ملازمت یعنی مقصد لکھیں خانہ نمبر ۱۱ میں ”ان اللہ ہوا الرزاق“ اور خانہ نمبر ۱۶ میں ذوالقوۃ المتین لکھیں گے۔ خانہ ملازمت میں مختصر نام ملازمت یا خاص جگہ ملازمت چاہیے تو ملازمت لکھیں۔

اگر حصول مال مقصود ہو تو اس کا ذکر کرو۔ کسی خاص ملازمت کی تخصیص بھی لکھی جاسکتی ہے۔

آج کل بعض لوگ بیرونی مالک میں ملازمت کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مقصد میں ”ملازمت بیرون ملک“ لکھیں اور اس پر گیارہ ہزار بارہ اعلیٰ پڑھ کر دم کر لیں۔ اب ہم مثالی سطروں قائم کریں گے۔ مثلاً احمد بن نہب طالب ہے اور ملازمت چاہتا ہے۔

احمد بن نہب	ملازمت	ان اللہ ہوا الرزاق	ذوالقوۃ المتین
۱۱۲	۵۱۸	۳۶۷	۷۷۳

یہ چار گلوے ہو گئے۔ مرقع نقش میں با آسانی آ جائیں گے۔ نقش سفید کاغذ پر زعفران سے وقت مقررہ پر لکھنا چاہیے۔ میں نقش رفار کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں آپ بھی اسی طرح تیار کریں اور رفار کے مطابق اصل نقش بھر لیں۔ رفار نقش یہ ہے۔

۱۶	۱۱	۶	۱
۵	۲	۱۵	۱۲
۳	۸	۹	۱۳
۱۰	۱۳	۳	۷

اصل نقش

۷۸۶

احمد زینب	ملازمت	ان الله هو الرزاق	ذو القوة المتن
۳۶۸	۱۷۷۸	۱۲۲	۵۱۷
۱۷۷۷	۳۶۵	۵۲۰	۱۲۳
۵۱۹	۱۲۵	۱۷۷۶	۳۶۶

اصل نقش کو دیکھیں خانہ نمبر ۱ میں طالب کا نام معاویہ ہے۔ اس لئے اس خانہ میں عدد ۱۲۲ نہیں لکھے گئے۔ خانہ نمبر ۲ میں ۱۲۳ لکھا۔ خانہ نمبر ۳ میں ۱۲۲ لکھا۔ خانہ نمبر ۴ میں ۱۲۵ لکھا۔

اب ۶۔ ۷۔ ۸۔ خانہ کو پر کرتا ہے۔ اس میں ملازمت کے عدد سے ایک کم کر کے خانہ ۵ میں ۵۱۷ لکھا۔ خانہ ۶ میں لفظ ملازمت لکھ دیا۔ خانہ ۷ میں ۵۱۹ لکھا۔ خانہ ۸ میں ۵۲۰ لکھا۔

باتی آٹھ خانے بالکل اسی طرح پر کریں جس طرح میں نے لکھ دیئے ہیں۔ کیونکہ باتی خانوں میں آیت کے دو حصے کر کے لکھ دیا ہے۔ یہ آیت چونکہ نقش میں قائم رہے گی اس لئے ان آٹھ خانوں میں ترتیب وار ۱۲۲ خانوں کو لکھیں۔ جس میں جو ہندسہ ہو وہ لکھیں۔ جو آیت آئے وہ لکھیں۔

اس نقش کی کل میزان ۲۸۸۱ ہے۔ آپ بھی پر کر کے چاروں طرف میزان کر کے دیکھ لیں کہ ہر طرف سے تعداد درست ہے یا نہیں اگر کسی طرف سے تعداد درست نہ ہو تو سمجھ لیں نقش غلط ہو گی۔ نقش لکھنے سے پہلے اور پر ۷۸۶ لکھیں پھر پیٹ کر تعویز ہنالیں اور گلے میں ڈال لیں یا بازوئے راست پر باندھیں زیادہ سے زیادہ تین ماہ کے اندر مقصد ہاتھ آ جائے گا۔

اپنا حق پانا

اگر کوئی زبردست آدمی کسی کمزور کا حق دبا کر یا زمین، مکان و جائیداد اپنے قبضے میں لے بیٹھا ہو اور قبضہ نہ چھوڑتا ہو یا کسی نے غماختی کر کے روزگار سے الگ کروادیا ہے یا کسی نے روپیہ لیا اور پھر وہ دینے کا نام نہیں لیتا تو یہ عمل انشاء اللہ کامل کامیابی دے گا اور مخالف کو مجبور حق حقدار کو واپس کرنا پڑے گا۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک سیسہ (سکہ) کی لوح مہیا کریں مخالف کا نام مدد والدہ لے کر اس کے عدد نکالیں اس میں ۵۶۲۳ عدداً کا اضافہ کریں اور مربع ممکوس کی چال سے پر کریں۔ جو یہ ہے۔

۱۳	۲	۳	۱۶
۱۲	۷	۲	۹
۸	۱۱	۱۰	۵
۱	۱۳	۱۵	۳

طریقہ یہ ہے کہ کل اعداد میں سے ۳۰ تفریق کر کے ۳ پر تقسیم کریں اور اگر باقی پکھر ہے تو نادلیٰ اور اسماں الہی تھار، جبار، نمل، قابض، مجھن میں سے ایک یا دو کے اعداد شامل کر لیں تاکہ تفریق و تقسیم کرنے سے کچھ باقی نہ رہے۔ اس مربع کو پر کرنے میں باقی نہ رہتا چاہیے۔ جو حاصل تقسیم ہو اس کو خانہ اول میں رکھ کر پر کرتے جائیں۔ لوح پر کسی توکدار کیل سے آسانی سے نقش لکھا جائے گا۔ وقت مقررہ پر شش کا بخور صندل سرنخ جلا کیں۔ تنہا جگہ کام کریں۔ جب نقش لکھا جائے گا تو اس کے ارد گرد سورہ فاتحہ لکھنا شروع کریں اور اس کے آگے لکھیں "فلاں بن فلاں پر جلد فتح ہو جلد فتح ہو اور بحق کلام پاک مجھے میرا یہ حق (یہاں حق کا نام لکھو) واپس دینے پر مجبور کرو بحق یا اسرافیل یا عزرائیل یا میکائیل یا جبرایل۔"

اس لوح کو سیاہ کپڑے میں پیٹ کر اس مکان یا جائیداد میں فن کر دو جو غصب کی گئی ہے۔

اگر عمل واپسی روزگار یا ملازمت کے لئے کیا گیا ہے تو اس لوح کی دوسری طرف ایک تصویر بناؤ جو کام کی نوعیت ظاہر کرے۔ مثلاً دفتر کا کام ہے تو کسی پر بیٹھا ہو، سامنے میز ہو، میز پر رجسٹر ہو۔

کپڑے کی دکان ہے تو تصویر میں کوئی کپڑا تاپ رہا ہو۔ غرضیکہ جیسا روزگار تھا۔ ویسی فرضی تصویر بناؤ شکل و شہابات ملانا ضروری نہیں۔

اب اس لوح کو دفتر یا دکان جہاں ملازم تھے کسی طرح رکھوادو، دیکھو کیا ظہور میں آتا ہے۔ فہم سے کام لے کر مریع تیار کر دتا کہ غلطی نہ ہو، توار کا ہاتھ اور چھاپنے تو وہ بھی کام نہیں کرتی۔

لا علاج بیماری کا علاج

وہ شخص جسے کسی علاج سے فائدہ نہ ہوتا ہو اور حکماء اس کے علاج سے عاجز آگئے ہوں۔ وہ اس طریقہ کو کرے۔ خواہ کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو حکم زبی سے شفایا پائے گا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ جیسے گندم مریض خود خرید کر لائے کوئی اور نہ لائے۔ گندم پر ناد عالی دو ہزار بار پڑھے۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کسی سے پڑھواد کر دم کروالے۔

پھر مریض چلت لیت جائے اور عامل یا کوئی اور گندم کو مریض کے سر اور سینہ پر آہستہ آہستہ کھنڈوائے پھر اسے مریض اکھا کرے اور چار حصے کر کے چاروں درویشوں کو دے دے۔ انشاء اللہ صحت ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو شفاذی۔

عجیب تھا ہے گندم پہلے سے خرید کر لائی جاسکتی ہے۔ دم کرنا، کھنڈانا اور اکھانا کرنادقت مقررہ پر لمحی عروج قمر میں ہو گا۔



عمل تغیر قرآن السعد میں

قرآن السعد میں دو سخن ستاروں کا قرآن ہوتا ہے۔ یہ وقت تغیر کے لئے کامل ہوتا ہے کسی کے دل کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لئے اور اپنا سخر بنا لینے کے لئے ایسے ہی موڑ وقت کی تلاش کی جاتی ہے۔ ایسا قرآن سال بھر میں صرف ایک ہی دفعہ واقع ہوتا ہے۔

اس میں کام لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد کو تغیر کرنا ہو تو صورت مشتری کی تیار کرے کہ ایک مرد گھوڑے پر سوار ہو جس کے ہاتھ میں ہلال ہو۔ اگر عورت کو تغیر کرنا ہو تو صورت زہرہ تیار کرے۔ وہ یہ کہ ایک مرد پر عورت بیٹھی ہو جس کے ہاتھ میں آفتاب ہو۔

مندرجہ بالا وقت مقررہ سے پیشتر تابندہ، چاندی اور سکمہ ملائکہ ایک لوح بناؤ کر کھلے اور وقت مقررہ پر اس پر تصویر کندا کرے۔ یہ یاد رہے کہ تغیر کے اعمال میں سے یہ ایک باقوت عمل ہے۔ زہرہ کا عمل زہرہ کی ساعت میں اور مشتری کا عمل مشتری کی ساعت میں تیار کرنا ہوگا۔

مندرجہ بالا وقت سے پارہ گھنٹے قبل اور پارہ گھنٹے بعد جو ساعت سعد ہو، اس میں عمل تیار کرنا ہوگا۔ مردوں کی تغیر کے لئے حکام اور افسران یا محبوب و مطلوب ہو سکتا ہے حکام کی تغیر سے روز بروزان سے فوائد حاصل کرنا اور ترقی کرنا مقصود ہوتا ہے۔

اس لوح کے پاس رکھنے سے سحر اس کے قول و فعل کے خلاف نہیں جا سکتا اور نہ اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم باہر جا سکتا ہے۔

ای طرح عورت کی تغیر سے مراد خواتینِ معظمه یا محبوبہ یا مطلوبہ ہے یا یہوی ہے یا کوئی رشتہ دار عورت جو ناراض ہو گئی ہے۔

اگر مرد کی تغیر ہے تو لوح کے دوسری طرف ایک مریع نقش لفظی ناد علیٰ کا ہتائے۔

اس میں استعمال ہونے والی آیت کے اعداد ۸۸۵ ہیں نام خود معہ والدہ اور نام

مطلوب مدد والدہ کے جمع کر کے نقش آٹھی لکھتے۔ (اپر ہو تو نام محمد عبدہ کے اعداد لے) اگر عورت کی تحریر ہو تو اعداد ۲۱۲۳ میں نام طالب مدد والدہ اور نام مطلوب مدد والدہ کے جمع کر کے نقش مردج آٹھی تصویر کی پشت پر تیار کرے تصویر زہرہ کی ہو یا مشتری کی چار اسماہ اس پر لکھتے ہیں۔ اوپر یا کنٹیا لیوش یخچے یا مصلحومش دائیں جانب طھالموش بائیں جانب یا غسلیوش۔

یہ لوح جب تک پاس رہے گی مطلوب محرج و مطیع رہے گا۔ شروع شروع میں جب بھی مطلوب کا سامنا ہوا کرے تو "اجب یا طمطیاں" کہ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ پھر اس کو دیکھنے ملاقات کرے یا بات کرے۔

مردج نقش پر کرنے کا یہ قابلہ ہوتا ہے کہ کل اعداد سے ۳۰ تقریبیں کر کے باقی کو ۳ پر تقسیم کرتے ہیں۔ جو حاصل قسمت ہواں کو رفتار کے نقش کے مطابق خانہ اول میں رکھ کر ترتیب سے پڑ کرتے ہیں۔ اگر تقسیم کرنے سے باقی ایک رہے تو خانہ ۱۳ میں ایک کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر باقی ۳ رہے تو خانہ ۵ میں ایک کا اضافہ کرتے ہیں۔

چاروں طرف سے میزان کر کے دیکھ لیں۔ اگر اعداد صحیح ہوں تو نقش صحیح ہے ورنہ غلط ہوگا۔ رفتار کا نقش یہ ہے۔

رفتار

V	II	III	I
IV	2	7	12
3	16	9	6
10	5	3	15

تحریر کے اس سلسلہ کے لئے کسی بات کی پوچھنے کی ضرورت ہو تو جوابی لفاظ لکھیں۔ یا خود تیار نہ کر سکیں تو معقول ہدیے کے عوض مجھ سے بنوایں۔



ناجائز ملاب ختم کرنا

جن دو اشخاص میں ناجائز ملاب ہو اور ان کا ملنا کسی کی بے عزتی یا سبب دشمنی یا جان کا خطرہ بنے اور شرعی طور پر ان دونوں کو علیحدگی لازمی ہو جائے تو ان دونوں میں نفاق، عداوت اور جدائی ڈالنے کے لئے اس وقت کی تاثیر سے کام لیا جاسکتا ہے مرتضو رحل دونوں شخص ستارے ہیں۔

طریقہ یہ ہے کہ جو شخص عمر میں بڑا ہے اس کے نام معہ والدہ میں قاتل کے اعداد ملائیں اور جو چھوٹا ہو اس کے نام معہ والدہ میں ہاتھیل کے اعداد ملائیں اور تین نقش مشتمل خاکی پر کریں۔ یہ نقش ذوالکتابت ہوں ہر نقش کے دونوں طرف دو اشخاص کی تصوریہ بنائیں جن کی پشت نقش کی طرف ہو یعنی دونوں کے چہرے مخالف سمت پر ہوں۔ پھر ان کے اوپر ابھر لکھیں۔

اب جب ہفت آئے تو عین دوپہر بارہ بجے ایک نقش دو ٹھیکریوں کے درمیان رکھ کر اس پر ایک ہزار ناد علی پڑھ کر دم کریں اور کسی ویران جگہ یا قبر میں فن کر دیں اور باقی دونوں نقش میں سے ایک ایک دونوں اشخاص کے گھروں یا گزرگاہ میں فن کر دیں ان نقش کو فن کرنے کا دن اور وقت مقرر نہیں جب ہو سکے کر دیں لیکن دونوں کا زیادہ وقند نہ پڑنے دیں۔

چند دن میں ان کے درمیان ایسی دشمنی پیدا ہوگی کہ شکل دیکھنے کے روایا ورنہ ہوں گے نقش کا لی سیاہی سے لکھیں۔ بخور رال و گولک کا جلا میں نقش کی رفتار یہ ہے۔

۳	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

مثال یہ ہے:

۱۔ پہلے شخص کے اعداد

۱۳۳	قائل کے اعداد
۱۰۵۳	میزان
۲۳۰	دوسرا شخص کے اعداد
۳۸	ہائل کے اعداد
۲۷۸	میزان

خانہ نمبر ایک میں وہ اعداد پر کریں جو نمبر اکے ناموں کے اعداد میں سے ایک کم کر کے رہے (۱۰۵۳)۔

خانہ نمبر ۲ میں بجائے ۱۰۵۳ کے نام معد والدہ معد قائل لکھیں اور خانہ نمبر ۳ میں ایک بڑا حاکریتی ۱۰۵۵ لکھیں۔

خانہ نمبر ۴ میں دوسرا شخص کا نام معد والدہ معد ہائل لکھ دیں ان کے اعداد ۲۷۸ ن لکھیں۔ خانہ نمبر ۵ میں ایک کا اضافہ کر کے ۹۷۹ لکھیں پھر خانہ نمبر ۶ میں ایک کا اضافہ کر کے ۶۸۰ لکھیں۔

خانہ نمبر ۷ میں ۳۲۳۲ خانہ ۸ میں ۳۲۳۵ اور خانہ ۹ میں آیت لکھیں۔ یہ آخری تین خانے ہر نقش میں بھی رہیں گے۔ باقی کے تبدیل ہوتے رہیں گے۔

کبریتِ احر خاص

عالمین ایسی ساعتوں کا انتظار کرتے ہیں جو کبریتِ احر کا حکم رکھتی ہیں۔ اگر عالم الغیب کا ہی حکم خاص اس عمل کے اثر کروک دے تو اور بات ہے مگر جہاں تک عالمین کی تحقیقیں اور قانون عملیات کا تعلق ہے اس عمل کا اثر یقینی ہے۔

جن اصحاب کی ترقی رکی ہوئی ہے یا ملازمت نہ ملتی ہو یا کار و بار ک گیا ہے تو یہ نقش آپ کو خوش قسمتی سے ہمکنار کرے گا۔ مجھے اس پر کامل یقین ہے۔ خداوند کریم آپ کو بھی اس سے کامیاب کر کے میرے یقین کا مدد و معاون بنائے۔

یہ خیال نہ کریں کہ نقش بالکل سادہ ہے اور اس کی ترکیب آسان ہی ہے بلکہ جس طرح طب میں علاج بالمفرادات ایک موثر طریق ہے اسی طرح عملیات میں بھی ایک تم

خاص ہے۔

اس نقش معلم کو ۶۸ مرتبہ لکھیں۔ یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ ہر نقش کو علیحدہ علیحدہ کاٹ کر اور گولیاں بنائے میں لپیٹ کر پانی میں ڈال دیں لیکن ایک اور نقش بھی لکھ لیں گے۔ اس آخری نقش کو عطر میں معطر کر کے اس پر پانچ ہزار بار ناداعلی کا ورد کر کے دم کر لیں اور زرد ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر پچھے اعتقاد سے اپنے پاس رکھ لیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ ۲۱ یوم میں اس کا کھلا ہوا اثر معلوم ہو جائے گا۔ نقش ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور دراز عرصہ تک اپنے پاس رکھیں۔ پاس رکھنے کی کوئی معیاد نہیں۔ مگر اثر اکیسویں دن سے ظاہر ہونا شروع ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

۶۹۵	۶۸۷	۶۹۲
۶۸۹	۶۹۱	۶۹۳
۶۹۰	۶۹۴	۶۸۸

نقش لکھنے کے متعلق بھی سمجھ لیں۔ اگر ایک ہی نشت میں نقش لکھنے کا ارادہ ہو تو مشتری اور زہرہ کے وقت تسلیم سے اتنا پہلے لکھنا شروع کریں کہ آسانی سے اس وقت پر ختم ہو جائے اور اس تسلیم کے وقت میں صرف آخری نقش لکھنا پڑے۔

اگر ایک ہی نشت میں ممکن نہیں تو چھوپن قبل نقش شروع کر دیں۔ ہر روز ایک سو نقش لکھوادا ایک نقش پاس رکھنے والا لکھ لو پس عمل کی محیل ہو جائے گی۔

روزانہ نقش لکھنے کا وقت مقرر نہیں جو وقت پہلے مقرر کر لیں اس کی پیروی روزانہ کریں۔ کسی خاص قلم و دوات اور کاغذات کی بھی ضرورت نہیں زکوٰۃ کے نقش کا لی پہل سے بھی لکھ سکتے ہیں مگر آخری نقش رعنفان سے لکھنا ہو گا۔

نقش طہارت سے لکھا کریں۔ منہ مشرق کی طرف رکھا کریں۔ کوئی پرہیز نہیں۔ اگر چاہیں تو روزانہ نقش لکھ کر گولیاں بنائے کر بھی دریا وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں یا آخری دن سب نقش کو بھی اکٹھا ڈال سکتے ہیں۔

پانی ایسا ہو جس میں مجھلیاں ہوں اگر کسی جگہ ایسا پانی نہ ہو تو پھر کنویں میں ڈال دیں۔ وہ کنوں جس سے کھیتوں کو پانی ملتا ہو۔ اگر تدليس کا دیا گیا وقت گزر جائے اور زیادہ وقت ایک گھنٹہ اور بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کریں۔ کام مکمل کر لیں۔

زمین اور حکام کے معاملات

شش حکام سے متعلق ہے۔ زحل زمین و جائیداد سے متعلق ہے۔ کسی شخص کا اگر زمین و جائیداد کے متعلق مقدمہ چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کامیابی ہو یا جائیداد کی نہ کسی وجہ سے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہو تو اس کے لئے یہ شش اور زحل کے قرآن کا سعد وقت کام دے گا۔ اس سعد وقت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہم نے نادی علیہما انتساب کیا ہے۔

اس خاص آیت کے اعداد ۵۷۲۳۷ میں۔ نام مدد والہ کے اعداد لے کر آیت کے اعداد میں جمع کریں۔ ۱۲۰ ا عدد تفہیق کر کے ۳ پر تقسیم کریں اور چار چار کے اضافے سے نقش پر کریں۔

اگر تقسیم سے ایک باقی بچیے تو ۱۳ اویں خانہ میں۔ ۲ باقی بچیں تو ۹ ویں خانے میں۔ ۳ باقی بچیں تو ۵ ویں خانہ میں ایک کا اضافہ کر کے نقش پر کریں۔ نقش کی چال طالب کے نام کے حروف اول کے عضر کے مطابق ہوگی۔ مثلاً نام کا پہلا حرف الف ہے تو آتشی چال سے نقش پر کیا جائے گا۔ اگر نام کا پہلا حرف و او ہے تو بادی چال سے نقش پر کیا جائے گا۔

اس عمل کو مثال کے ذریعے سمجھا جانا ہوں:

مثلاً ایک شخص کا مقدمہ جائیداد کے سلسلے میں چل رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ افران اس کے حق میں فیصلہ دیں تو آیت کے عدد لے جو ۵۷۲۳۷ میں۔ پھر سائل کے عدد لے جو ۱۲۰ میں۔ کل اعداد ۵۸۶۳ ہوئے۔ ۱۲۰ ا عدد تفہیق کئے۔ ۵۷۲۳ باقی ہوئے۔ ۳ پر تقسیم کیا تو ۱۳۳۶ خارج قسمت ہوئے چونکہ سائل کے نام کا سرف آتشی ہے اس لئے آتشی نقش پر کیا جو یہ ہے۔

۷۸۶

۱۳۴۲	۱۳۷۶	۱۳۸۸	۱۳۳۶
۱۳۸۲	۱۳۹۰	۱۳۴۰	۱۳۸۰
۱۳۲۲	۱۳۹۶	۱۳۴۹	۱۳۵۶
۱۳۷۲	۱۳۵۲	۱۳۲۸	۱۳۹۲

میزان = ۵۸۳۳

نقش کی چال

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۳	۱۵

اس چال کے مطابق نقش پر کریں۔ خارج قسمت کے اعداد ۱۳۳۶ کو خانہ اول میں رکھیں۔ پھر چار کا اضافہ کر کے خانہ ۲ میں رکھیں۔ اسی طرح چار چار کے اضافے سے بالترتیب نقش کو پور کرتے چلے جائیں۔

یہ تین نقش لکھتے جائیں گے۔ ایک طالب اپنے پاس رکھے گا۔ ایک کو جائیداد میں دفن کر دیا جائے گا۔ ایک کو عضر کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ چونکہ نقش آتشی ہے اس لئے اسے حرارت میں رکھیں گے۔ اگر نقش باری ہو تو ہوا میں لٹکایا جائے گا۔

آبی ہوتا اس کی ٹلی میں رکھ کر دونوں طرف سوم لگا کر کسی نبی والی جگہ میں رکھا جائے گا۔

اگر نقش خاکی ہوتا سے زمین میں دبایا جائے گا۔

نیا چاند اور نادِ علیؑ کا ورد

نیا چاند دیکھ کر سورہ محمد ﷺ پڑھنا۔ نادِ علیؑ کا ورد کرنا۔ بادشاہ یا تکوار یا باعث بزرہ زار اور اپنے اہل و عیال و اطفال پر لہ الحمد کہہ کر نظر ڈالنا مبارک ہے۔

۲۔ عارف بالله عزہ صبام دیکھتے ہی سورہ فتح پڑھتے ہیں۔ تمام سال فراخدی = لنگر چلاتے ہیں۔ اگر اتنی ہمت نہ ہو تو عبادت و ریاضت اور ہمدردی صیام و تلاوت قیام میں پوری طرح مشغول ہو جاتا چاہیے۔

۳۔ ہر شب نادِ علیؑ بہت کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ خداوند کرم گناہوں سے محفوظ و پاک رکھے گا۔

۴۔ ہر رات کو آسمان دیکھتے ہوئے نادِ علیؑ پڑھنا چاہیے۔

۵۔ چاند دیکھتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا اور سورہ فاتحہ سات بار پڑھ کر دعا کر لینا اور عقیق یا فیروزہ یا جو اپنے ستارے موافق تگیہ ہو اس پر نظر کرنا بھی مفید ہے۔

ایک نادر عمل برائے فتوحات و مسخرات

ہلال رمضان دیکھ کر کہیں:

یا اسرائیل و یا میکائیل و یا ستار یا غفار

ایسا مطلب دل میں رکھ کر سات بار ان اسماء کا صبح نادِ علیؑ ورد کرو۔ بعد میں دعا کریں۔ تاریخ ہفتہ تک ناخنہ کرو چاروں سمت سے دریائے فتوحات و برکات کھل جائیں گے۔ اگر اس کے بعد ہمیشہ ہر ماہ چاند کے پہلے سات دنوں میں ایک عمل کیا جائے تو دوسرے رمضان چاند تک چلد پورا ہو جاتا ہے۔

اس کی برکت سے خدا غنی کرتا ہے۔ دولت بے حد بخشتا ہے۔ اگر امور شرعی میں حق حقوق کی پابندی رکھو تو لنگر جاری کرے۔



حصول روش ضمیری

اول روزے سے ساتویں تک پابندی نماز مخганہ باجماعت پر مستعد ہو کر (باپریز) بعد فراغت نماز بلا کلام و شغل غیر اسلامی "یا هادی یا خبیر یا متنی یا علام الغیوب" ہزار سرتی اور نادلی سات بار پڑھ کر سجدہ میں جا کر وہو اللطیف الخبریں تین بار پڑھ لے۔

پس اس شخص پر آسمان وزمین کے خزانے پاذن اللہ تعالیٰ کھل جائیں گے اور سالمین کے دلوں کے بھید بلا سوال بتلانے پر قادر ہو گا اور اگر تمام ماہ مکمل صائم قیام سے یعنی تین ہفتے ریاضت پوری کرے تو زمین و آسمان کے ملک منتشف ہو جائیں گے۔ بہت دور دور کی خبر س قلب پر اتریں گی۔

ترقی رزق و برکت

ماہ رمضان کے چودھویں روز سے اگر جمعرات یا جمعہ ہو جائے تو طلائی لوح پر یہ نقش کنہ کر کے اوپر نادلی ایک ہزار سات بار دم کر لے۔ انگوٹھی میں محفوظار کے رزق و روزی میں بے اندازہ برکت و ترقی ہو اور جمل بیلات و مصائب سے محفوظ رہے۔ اس سے استغفار میں بڑی مدد ملتی ہے۔ یہ نقش خزانہ ربی کی کلید ہے۔ دستِ غیب کی قوی امید ہے۔ نقش یہ ہے۔

۳۳۰	۳۲۵	۳۳۲
۳۳۱	۳۲۹	۳۲۷
۳۲۶	۳۲۳	۳۲۸

نقش کے دائیں القوی العزیز اور باعیں بعادہ یہ رزق لکھیں



تغیر خلائق

تغیر خلائق مربوط مقطعات قرآنی وہ ہے جس کے چاروں طرف مقطعات بھی تحریر ہوں، ہرن کی جملی کوری پر گلب زعفران و مشک و کافور سے لکھ کر اوپر ناد علیٰ سات سو سترہ پار دم کرے اور معطر کر کے پاس رکھا جائے تو تمام عملے کے حکام مُسخر ہو جاتے ہیں۔ نقش یہ ہے۔

۸۳۶	۸۳۹	۸۵۲	۸۳۸
۸۵۱	۸۳۹	۸۳۵	۸۵۰
۸۳۰	۸۵۳	۸۳۷	۸۳۳
۸۳۸	۸۳۳	۸۳۱	۸۵۳

نقش کے دائیں صفحہ ن اور باائیں طرف یہی صفحہ عکسیں

اعمال ایام بیض ماہ رمضان شریف

دعائے مجبر اور ناد علیٰ اگر ماہ رمضان المبارک ۱۴۱۵ء تاریخ میں پڑھ لے تو جملہ گناہوں کی معافی جمیع آفات سے تحفظ، قرضہ سے نجات، بیماری سے شفا، قیدی کی رہائی ہو۔ حکام میں عزت و آبرو، عہدہ میں ترقی، کمائی میں خیر و برکت، ہوتام غم و اندوہ اور دشمنوں ظالموں، جاہروں سے مخلص ہو جاتی ہے۔ دعاۓ مجبر یہ ہے:

سبحانک یا اللہ تعالیٰ یا رحمن اجرنا من النار یا مجری سبحانک
یا رحیم تعالیٰ یا کریم اجرنا من النار یا مجبر.

سال بھر میں صرف سہ یوم قابل ریاضت سے کثیر فوائد ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہتنا ورد کر سکتے ہو کرو۔ عشاء کے بعد کثرت سے ریاضت کرو۔

سورج و چاند گرہن

سورج گرہن میں ایمانداری کو شدید دھکا، جاگیر املاک کا نقصان، ناجائز قبضہ زمین کے سلسلہ میں قتل کے معاملات کے لئے۔

چاند گرہن میں مویشیوں خصوصاً گائے بھینیوں کی بیماریوں اور بکثرت اموات کے معاملات کے لئے۔

اس وقت کے اندر اندر جو بھی اعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حروف صوات کی زکوٰۃ دینا چاہیں تو بھی ۵۲۳ بار "احدر صص طعک لموہ" لکھ کر دے سکتے ہیں۔ حروف صوات کے اعمال انسانی ضروریات کا چوتھائی حصہ مکمل کرتے ہیں۔

گرہن کا ایک خاص اثر اہل عالم پر ہوتا ہے جس کے بعض اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کے اولاد ہونے والی ہو وہ گرہن کے وقت بہت احتیاط کریں۔ بعض بچے جو ماں کے چیٹ سے ناقص مخلائق ہوئے، انہی ہونٹ کے یا گونے بہرے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہ سب گرہن کے اثر سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں۔ عام عورتیں گرہن کے اثرات سے واقف نہیں ہوتیں۔ جن عورتوں کے اولاد پیدا ہونے والی ہو۔ گرہن کے تمام وقت بڑے آرام سے ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے لیٹھی رہیں اور خیالات نہایت پاکیزہ رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ گرہن کے وقت جو خیالات مان کے ہوں گے، اولاد کے بھی ویسے ہی خیالات ہوں گے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہو تو گرہن کے وقت لیٹ کر نہ ہی یا عالمانہ اور جرات و ہمت والی باتوں کی کتابیں پڑھتی رہے۔ اگر حاملہ محنت اس وقت قعدہ میں بیٹھی ہو تو بچے کے پاؤں شریز ہوں گے اگر آنکھیں بند کر کے لیٹھی گی تو بچے کی آنکھوں میں فور کم ہو گا۔

علاوه ازیں حاملہ کے او، لوگوں کو چاہیے کہ وہ عبادت و استغفار میں مشغول رہیں۔ مسلمان اپنے محلہ کی مسجد میں نماز کوف یا خسوف ادا کریں۔ باجماعت نماز ہو۔ اس میں خطبہ نہیں ہوتا۔ اس وقت ہر شخص حسب توفیق صدقہ و خیرات کرے۔ یہ وقت

سعد نہیں ہوتا اور اس وقت کی تاثیر بہت طاقت رکھتی ہے۔ گرہن کے وقت میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ نہایت سریع الائٹ ہوتا ہے۔

جو شخص عامل بننا چاہے اس کو تو چاہیے کہ حروف صواتت کی زکوٰۃ دے۔ یا انہوں نے کو پانچ سو مرتبہ پڑھ لے تو وہ اس عمل کا عامل ہو جائے گا۔ یہ عمل بخار حب سرورد اور درود انت وغیرہ کے لئے ہیں۔ اپنی پسند اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر زکوٰۃ ادا کریں۔ تمام عمل کام دے گا۔

اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہر شخص کے فائدہ کا ایک عمل تحریر کرتا ہوں جو شخص چاہے تیار کر کے فیض حاصل کر سکتا ہے ہر شخص کے لئے اجازت ہے۔

یہ عمل ان تمام خبائشوں سے محفوظ رکھے گا جو انسان و شیطان دونوں سے وابستہ ہیں مثلاً یہ بد گویوں اور خلاف بولنے والوں کے لئے زبان بندی کا کام دے گا۔ حاسدلوں کے حسد سے محفوظ رکھے گا۔ نظر ظالماں، قاطعاں اور موزیاں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ان سے ہر وقت محفوظ رہے گا۔ جن لوگوں کو مخالفتوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کے دشمن ہم وقت اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بدنام کرتے ہیں۔ ان سب سے محفوظ رہنے کے لئے ہر ز اسرار کام دے گا۔ تمام خلقت کی زبان بندی بھی اسی سے ہو گی۔ گویا شر الائٹ سے محفوظ کرنے کے لئے ایک حصہ حصار کا کام دے گا۔ انسان کو بہترین نفع دینے والی چیزوں میں سے یہ ایک میرا تخفہ ہے اور اس زمانہ کے ہر آدمی اور عورت کو اپنے اپنے حلقہ میں محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے۔

حروف صواتت جن سے ہر قسم کے امور کو باندھا جاتا ہے ان کے عدد ۵۲۳ ہیں۔ حروف نورانی میں سے ال۔ ط۔ طس۔ عسق۔ ن۔ کے اعداد بھی ۵۲۳ ہیں۔

اللہ جن شان نے ان حروف نورانی سے قرآن کریم کی حفاظت کی ہوئی ہے اور یہ حروف قرآن کی بعض سورتوں کے شروع میں ہیں۔ ان کے مفرد حروف چودہ ہیں۔ اب میں ان اعداد کی توتوں سے نقش تیار کرتا ہوں جو شر الائٹ سے محفوظ رکھ کر حفاظت کرے گا۔ وہ یہ ہے ۱۷۱ سے ۱۸۵ تک با ترتیب لکھانا ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۸۰	۱۸۵	۱۷۸
۱۷۹	۱۸۱	۱۸۳
۱۸۳	۱۷۷	۱۸۲

اب اس کی سمجھیں۔ اگر یہ نقش زبان بندی اعداد کے لئے لکھے تو نقش کے نیچے ناداعلی طفظی لکھے۔

اگر یہ نقش شرالاشرار سے محفوظ رہنے کے لئے ہو تو نیچے ناداعلی حرفاں لکھے۔

اگر یہ نقش نظر و جن و پری اور حرم و جادو سے حفاظت کے لئے ہو تو نقش کے نیچے ناداعلی اعدادی لکھے۔

اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے کسی ایک کی دوسرے کے دل میں عزت و وقت نہ ہو مثلاً میاں یوہی کے درمیان نفرت ہو اور ایک دوسرے کو بر بھلا کہ کر عزت نہ کرتے ہوں اور اسی طرح کسی کی اپنے دفتر میں وقت نہ ہو تو نقش کے گرد ناداعلی لکھے۔ ان عزمیوں کو جو نقش کے بعد لکھی ہیں بسم اللہ سے شروع کریں اور عزمیت کے بعد لکھیں۔ بحق الٰم طہ طس طسم عسق ن و ناداعلی۔ اللهم احفظ علی حامل ہذ الدعاء (نام معده والدہ) باامر اللہ الواحد القهار۔

اب چاروں طرف ایک ایک دفعہ حروف صواتت لکھیں۔ احمد رمسن طعک لموہ۔ نقش کے کوئی نہ قوله الحق وله المک سے تیار کریں۔ یہ سارا کام کالی سیاہی یا نیلی سیاہی یا پیشل سے کاغذ پر لکھ کر کئے ہیں۔

لکھتے وقت منہ جنوب مغرب کی طرف کریں اور اسکیلے کرہ میں کریں۔ ایسا انتظام کریں کہ کوئی بلاۓ نہیں۔ نہ ہی کام کرتے وقت بولنا ہے۔ اس کو تہہ کر کے قویینہ بنالیں اور بازو پر باندھیں یا گلے میں ڈال لیں۔ یہ ایسا کام کر لیا جس سے دل مطمئن رہے گا۔ بے خوف و بے خطر ہو جائیں گے۔

عمل حب بابلی

زہرہ کو عورت اور مرخ کو مرد گردانا گیا ہے۔ علم کواکب میں یہی دو قسمیں موجود ہندگر ہیں۔

جن مرد گورت میں یا میاں یوں میں اختلافات ہے یا جھگڑا چلا آ رہا ہے یا دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے یا طلاق کے مقدمات چل رہے ہیں۔ یہ اختلافات کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں۔ جس وقت دونوں مختلف صنفوں کا قرآن ہورہا ہوں اس وقت کی روحاںیت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل کو ہر شخص کر سکتا ہے گواں تم کے طریق کار کو روز میں سمجھایا گیا ہے تاہم یہاں پوری تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور کسی اسرار کو پوشیدہ نہیں رکھا گیا۔

عام طور پر یہ مشہور ہے کہ عمل میں اثر نہیں ہوتا۔ میں خیال کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہی اصحاب شامل ہیں جنہوں نے کبھی بکھار کسی ضرورت کے وقت کوئی نقش یا تعمیہ لے لیا (مفت یا ہدیہ سے) اور اس نے اثر نہیں کیا تو وہ لوگ عملیات کو بے اثر کرنے پر بھرتے ہیں۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل تو بہت کے مگروہ قواعد و عملیات سے ناواقف ہیں۔ ذرا غور کریں معمولی اجرت پر کام کرنے کے لئے پہلے ہر سوں اس کو سیکھنا پڑتا ہے پھر اس میں دسترس پیدا ہوتی ہے۔ تب جا کر اس کے ذریعے سے روپیہ پریس کلایا جاتا ہے۔ دنیا کا ادنی سے ادنی ہتر بغیر استاد کے اور محنت و کوشش کے نہیں آتا پھر عملیات جو اسرا رخداوندی کا خزانہ ہیں ان کو لوگوں نے کیسے آسان سمجھ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص ناکام رہتا ہے تو عمل کو بے اثر کرتا ہے کوئی عمل بھی بے اثر نہیں ہوتا اپنی غلطی سے ہی ناکامی ہوتی ہے یا تم اس کے قواعد سے ہی نا بلد ہو۔ جس کے تحت خاتم حقیقی نے اثر کو مرتب کیا ہے۔

تغیر و محبت کا یہ عمل بھی مقلب القلوب ہے اگر آپ وقت اور قواعد کی پابندی کریں گے تو انشاء اللہ کبھی ناکامی نہ ہوگی۔

طریقہ یہ ہے کہ ایک سڑک تکھیں۔ پہلے نام مطلوب مع والدہ پھر نام طالب مع والدہ۔ اب اس کی تکھیر کا خاص قاعدہ یہ ہے کہ پہلی سطر میں تمام علیحدہ حروف تکھیں دوسری سطر میں طالب کے نام کا اول حرف چھوڑ کر تمام سطر کے حروف لکھو اور چھوڑا ہوا حرف آخر میں لکھ لیں۔ اسی طرح تمام تکھیر کریں، یعنی ہر دفعہ طالب کے نام کا پہلا حرف چھوڑ کر لکھتا ہے اور پھر اسے آخر میں لکھ دینا ہے۔ اگر آخری سطر میں نام طالب کا پہلے آئے گا اور نام مطلوب کا آخر میں آجائے گا۔ تب اس کی زمام ہوگی۔ میں مختصر ناموں کی تکھیر کرتا ہوں جس میں ماں کا نام شامل نہیں۔ دونوں ناموں کے درمیان کے لئے دو ہری لکھر لگادیں۔ مثلاً طالب علی مطلوب محمد ہے تو تکھیر یہ ہوگی۔ اس میں نام مطلوب اول اور طالب آخر ہی رہا ہے۔

م	ح	ع	د	م	ل	ی	ع
ح	م	د	م	ح	ل	ی	ع
د	ع	ل	ی	م	ح	م	ع
ع	ل	ی	د	م	ح	م	ح
ل	ی	م	ع	د	م	ح	ل
ی	م	ح	م	ل	ی	د	ع
م	ح	م	ل	ی	م	ع	د
م	ح	م	د	ع	ل	ی	م

اب کرنا یوں ہے کہ تکھیر کے سیدھی طرف کے پہلے پہلے تمام حروف اور پھر آخری حروف لے کر ان کو امتزاج دیں۔

ی	ع	م	د	ح	ل	م
ی	ع	م	ل	د	ح	ی

امڑاج دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سطر دوم کا آخری حرف اور سطر اول کا پہلا حرف لیں۔ بار بار اس طرح کریں حتیٰ کہ ایک سطر بن جائے۔

امڑاج یہ ہوا:

ی م ح ل د د ل ح م ی م ع ع م م ی م = ۱۶ حروف

ان کے اعداد لے کر ایک مریخ نقش پر کریں۔ کل اعداد ۳۵۳ ہوئے۔ مریخ میں پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل اعداد سے ۳۰ تفریق کریں باقی کو ۲۷ پر تقسیم کریں جو حاصل آئے اسے خانہ اول میں رکھ کر رفتار سے پر کریں۔

اگر تقسیم سے باقی ایک بچھے تو خانہ ۱۲ میں ۲ بچپن تو خانہ ۹ میں ۳ بچپن تو خانہ ۵ میں ایک کا اضافہ کر دیں نقش پر ہو جائے گا اور چاروں طرف سے میزان برابر آئے گا۔
 $۳۰ - ۲۵۳ = ۴۰۶$ تقسیم = ۲۲۳

نقش یہ ہے۔ اسے آتشی رفتار سے پر کریں۔

۱۱۳	۱۱۶	۱۱۹	۱۰۶
۱۱۸	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۷
۱۰۸	۱۲۱	۱۱۳	۱۱۱
۱۱۵	۱۱۰	۱۰۹	۱۲۰

اس نقش کے گرد تمام امڑاج کے حروف لکھ دیں چونکہ جفت ہیں اس لئے چار چار کے کلمات بنا کر لکھیں۔ اگر طاقت ہوں تو تین تین یا پانچ یا سچ حروف کے کلمات بنا سکیں۔ اس نقش کے سچھے اپنا مطلب لکھیں یا عزیزیت لکھیں۔ ان دونوں نقش کے گرد تمام امڑاج کے حروف اور ان کے باہر ناداعلیٰ حرفاں لکھ دیں۔ چونکہ جفت ہیں اس لئے چار چار کے کلمات بنا کر لکھیں۔ یہ دونوں تیار کریں ایک کو گلے میں ڈالیں یا بازو پر باندھیں اور دوسرے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں اسے حرارت ملتی رہے۔ انشاء اللہ ایسے اسہاب پیدا ہوں گے کہ دونوں کا ملاپ ہو جائے گا۔

عمل فتوحاتِ دائی

واضح رہے کہ علمائے علم عمليات نے نظرات سیارگان کو موثر تعلیم کیا ہے اور موثر تعلیم کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ گرہن اور چاند کا گھٹنا بڑھنا سب نظرات کے ماتحت ہی ہے۔

نظرات کی چند قسمیں ہیں لیکن یہ بات معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہر ستارہ ہر وقت ایک دوسرے کا ناظر رہتا ہے لیکن تمام نظرات کو موثر تعلیم نہیں کیا گیا ہے اور یہ بات ماہرین علم سے پوشیدہ نہیں۔ غرضیکہ نظرات میں ذیل کی قسمیں موثر مانی گئی ہیں۔ قرآن، تربیع، سنتیث، مقابلہ، تدبیس چونکہ سیارگان سعد و خس دونوں ہیں اس لئے ہر ستارہ کی ہر ستارہ سے نظر علیحدہ موثر ہوگی۔

زہرہ و مشتری کی تدبیس کے وقت مقررہ پر کام کریں کہ زہرہ مشتری کے اعداد حساب ابجد قمری نکال کر اس میں اپنے نام کے اعداد امداد والدہ شامل کر کے کل اعداد سے ایک مشکل آلبی چال سے پُر کریں اور اس مشکل کو عطر میں معطر کر کے اس پر نادی ایک ہزار ایک بار دم کر لیں اور کسی سرخ کاغذ میں لپیٹ کر اور سرخ کپڑے میں باندھ کر اپنے پاس رکھیں۔

خدا چاہے تو فتوحات غیبی ہوں گی۔ ہر شخص عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ وہ منوں پر فتح یاب ہوگا۔ اگر یہ نقش سفید کاغذ پر ہو تو چاند کی انگوшی میں رکھ کر اوپر سے عقیق جڑوالیں۔

نقش زعفران سے پُر کریں۔ قلم نیا ہوئے شمال کی طرف ہو۔ نقش بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عدد ہوں اس میں سے ۱۲ عدد کم کر کے بھایا کو تین پر تقسیم کریں خارج قسمت کو سلیے خانے میں رکھ کر نقش پُر کریں۔

اگر نقش سے ایک بچے تو ساتویں خانے میں اور ۲ بچیں تو چوتھے خانے میں ایک زیادہ کریں نقش پُر ہو جائے گا۔

نقش کی چال یہ ہے۔

۷۸۶

۶	۷	۲
۱	۵	۹
۸	۳	۴

عمل برائے وصال

زہرہ وزحل کی سٹیٹس کے وقت میں میاں بیوی کے اندر ہونے والی طلاق یا جدائی کا سد باب کیا جاسکتا ہے۔ جہاں بھی ایسا اندیشہ ہو وہاں یوں کریں کہ نام بیوی مخدودالدہ یا نام خادم مخدودالدہ کے اعداد میں ۹۱۵۸ عدد شامل کر کے اس کی ایک تمحیس پر کریں۔ اس پر ناویں علمی پانچ سو پانچ بار پڑھ کر دم کر لیں۔ ایک نقش طالب اپنے پاس رکھے دوسرا نقش مطلوب کے لئے میں ہی دے۔

اب میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ عمل با آسانی سمجھ آجائے۔ میاں بیوی کے لئے عمل تیار کرنا ہوتا فرض کریں:

طالب کے اعداد ۱۹۸۰ اور مطلوب کے اعداد ۳۲۷ ہوئے۔

طالب مطلوب کے اعداد میں ۹۱۵۸ کا اضافہ کیا کل عدد ۱۰۰۰ ہوئے۔ اب ان اعداد کو تمحیس میں پر کریں تمحیس پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل اعداد سے ۶۰ عدد تنفیق کر کے ۵ پر تقسیم کر دیں اور خانہ اول میں حاصل قسم کو رکھ کر مقبرہ چال سے لوں لکھیں۔

اگر کسر واقع ہوتا کہ ایک کے لئے خانہ ۲۱ میں:

کسر ۲ ہوتا خانہ ۱۶ میں۔

کسر ۳ ہوتا خانہ ۱۱ میں۔

کسر ۴ ہوتا خانہ ۶ میں ایک کا اضافہ کریں۔

نقش پر ہو جائے گا۔ نقش کو اس چال سے پڑ کریں۔

چال نقش

۱	۲۰	۱۹	۱۳	۷
۱۲	۸	۲	۲۱	۲۰
۲۲	۱۶	۱۵	۹	۳
۱۰	۳	۲۳	۱۷	۱۱
۱۸	۱۲	۶	۵	۲۳

نقش پر کرنے کے بعد نقش کے نیچے عزیمت لکھیں۔

اس عمل سے دو فرد جن میں ایک عورت اور ایک مرد اور ان کے تعلقات ٹوٹ رہے ہوں مثلاً ماں اور بیٹا، بہن اور بھائی وغیرہ بھی فائدہ اٹھاسکتے ہیں مگر ان معاملات میں ۷۴ عدد شامل نہ کریں بلکہ ۳۷۹۹ عدد شامل کریں۔ انشاء اللہ گردش وقت یا حادسوں کی ریشمہ دو ایسے کے باوجود تعلق قائم رہے گا۔

عمل قدوسی

قدوس کے معنی ہیں ظاہر و مطہر پاک پاکیزہ۔ جمیع عجیب اور نقصان سے پاک۔

یہ اسم جمالی ہے اور عصر آلبی ہے۔ اس کے عدو ۷۴ ایں۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ قدوس کے معنی نقاش سے منزہ کے ہیں۔ یہ تقدیس کے ساتھ اللہ سے ہی موصوف ہیں۔ بندہ کے حق میں قدوس کے معنی طہارت اور پاکیزگی کے ہیں۔ یہ ذکر ان فرشتوں کا ہے جو کری کے گرد رہتے ہیں اور جو لوح و قلم پر مصین ہیں۔ ان کا ذکر بھی یہی مقرر ہے۔ چنانچہ ساتوں آسانوں اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا ذکر قدوس ہے اور اہل کری کا ذکر سبوح قدوس ہے اور لوح والوں کا ذکر سبوح قدوس رب الملائکہ والروح ہے۔

قدوس اس بلند مرتبہ ذات کو کہتے ہیں جس کے انوار اور اگ سے برتر ہوں۔

جب یہ اسم کسی شخص کے نام کے اعداد کے موافق ہو اور وہ اس کا ذکر کرتا چاہے تو

یا سیوں قدوس کر کے پڑھے اور مداومت کرے تو عالم علوی کا کشف اسے حاصل ہوگا۔
 تقدیس کے تین مقام ہیں۔ طہارت عقول روح، نفوس قلوب اور جسم کے تین
 تمن قسمیں ہیں۔ ان کا بیان تو طویل ہے۔ یہ مقامات تو اولیائے کاملین کے ہیں تاہم
 میں ذرا سمجھانے کی غرض سے جسم کی تقدیس کا بیان کرتا ہوں۔
 پہلی تقدیس حلال روزی ہے اور تو کل کا اختیار کرنا۔
 دوسری تقدیس دل کی ہے۔ ذکر الہی اور خلوت و خاموشی کو اختیار کر کے دل کی
 تقدیس کی جائے۔

تیسرا تقدیس بدن کی ہے یعنی شب و روز طہارت سے رہنا۔ یہ مقام تقویٰ کی
 ابتداء ہے۔

جب آپ ان طریقوں سے اپنے اوصاف پاک کر لیں گے تو عالم افہام سے
 قدوس فرشتہ اذل کر یا عائب الملکوت کے راز بیان کرے گا۔
 اگر کوئی شخص اس اسم کو اس کے عدو کے موافق پڑھے اور ریاضت کی شرائط بجا
 لائے تو اس کو بہیت اور تقرب الی اللہ حاصل ہوگا۔ خلوت میں پڑھنا لازم ہے۔ اسماء
 تلاوت خاموشی سے کرے۔

جب کوئی اس اسم کو سفید کاغذ پر مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے اور ناد
 علیٰ کی تلاوت میں کثرت اختیار کرے تو بہیت و مقبول ہو۔

جب کوئی گنجنگار آدمی اس کوچاندی کی انگوٹھی پر نقش کر کے پہنے اور اس اسم کی
 تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے گا۔

نمایز و تلاوت میں بھی جس شخص کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے
 ہوں یا عبادات کی طرف رغبت نہ ہو۔ اس کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔

اس اسم کی ریاضت کے لئے ۱۷۰۰۰ بار روزانہ سع ناد علیٰ پڑھنا چاہیے
 اور یہ ذکر جاری ہی رہنا چاہیے۔

معلوم ہوا کہ تمام اسماء اور رُعوات گی درست اکلی حلال اور طہارت ظاہری و باطنی
 پر موقوف ہے اور خلوص نیت اور ریاضت اور اوقات یک کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔

جب تم ان سب یا توں کا خیال رکھو گے تو بہت جلد کامیابی کی منزل پر پہنچ جاؤ گے اور دین و دنیا کی تجیاں تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ اگر اس اسم کا ذکر کثرت سے کیا جائے یہاں تک کہ اس کی روحانیت غالب آجائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک بری خواہش کو دور کر دے گا۔

اگر کوئی شخص اس اسم کا مرليع شب جمجمہ ساعت مشتری میں زائد النور قمر کے دنوں میں لکھ کر پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے برے اخلاق دو رکھے گا اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرے گا اور لوگوں میں محبوب کرے گا کہ سب اس کی تعریف کریں گے۔ جس شخص کے اندر کوئی بد عادت ہو اس کو اسی اسم کا لکھ کر دینا چاہیے۔ مرليع اس کا یہ ہے۔

۷۸۶

ال	ق	دو	س
۱۱	۵۹	۳۲	۹۹
۵۸	۸	۱۰۲	۳۳
۱۰۱	۳۳	۵۷	۹

اس کو چاندی کی صحیت پر کندہ کریں یا سفید کاغذ پر زعفران سے ذیل کی چال سے لکھیں۔ اور پتا وعلیٰ کا ایک ہزاری ور دروز اندام کرتے رہیں۔

۷۸۷

۱	۶	۱۱	۱۶
۱۲	۱۵	۲	۵
۱۳	۹	۸	۳
۷	۲	۱۳	۱۰

اگر کوئی شخص عین زوال کے بعد اس اسم مبارک کو ایک سو ستر بار پڑھے تو شرف

اور وہ سر شیطان سے امان پائے۔

شیخ مغرب نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ ذکر کو پاک باطن کرتا ہے۔

اگر اس اسم کی تلاوت روزانہ ایک سو پندرہ مرتبہ کی جائے تو ظاہری و باطنی

امراض سے صحت حاصل ہو اور قلب پاکیزہ نفس ہو۔

شیخ یونی ” نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسم کا ذکر اس کثرت سے کرے کہ از خود رفتہ ہو جائے تو پروردگار عالم ہر بری خواہش کو اس سے دور فرمادے گا اور ذا اکر کے چہرے پر آثار پاکیزگی خوددار ہوں گے۔

شیخ شہاب الدین سہروودی ” نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص براۓ عظمت ظاہری و باطنی چالیس روز تک ترک حیوانات و لذات روحاںی و جسمانی کے ساتھ دس ہزار مرتبہ پڑھا کرے تو بخیج تخلوقات از جن و انس مخز و مطبع ہوں۔

اگر ناد علیؒ کو ایک دفعہ پڑھ کر کھانے اور پینے کی چیزوں پر دم کر کے گھر میں اس فرد کو کھلاتا رہے جو سرکش اور بے ادب ہو تو وہ اس بدعادت کو چھوڑ دے گا۔

اگر کوئی شخص سفید کاغذ پر تحریر کر کے دھو کر مریض کو پلاۓ تو شفا ہو۔ درد سر کو آرام ہو۔ بخار دائی زائل ہو۔ عبارت ذیل کو ناد علیؒ کے دائرے کے اندر یوں لکھے۔

باقدوس الظاهر من کل سوء فلاشیني بعده من جمبع خلقه
اگر اس اسم عظیم کی مثلث عددی کو اس طرح تحریر کرے کہ مرین حرثی احصی کے ہوئے ہو اور شب جمعہ کو ساعت مشتری میں تحریر کر کے اپنے پاس رکھے تو پروردگار عالم اخلاق حسن عطا فرمائے۔ محبوب الخالق اور مقبول القبول ہو۔ وغیرہ بھی دوست گردانیں اگر سافر باندھے تو ماندہ نہ ہو۔ نقش یہ ہے۔

س	و	د	ق
ف	د	و	س
و	س	ق	د
د	ق	س	و

اگر کوئی شخص اس اسم کو پڑھے اور ریاضت کی شرائط کو تمام و کمال طریقے پر بجا لائے تو بہیت عظیم حاصل ہو اور تقرب الی اللہ کے مرتبہ پر فائز ہو۔

اگر سفید کاغذ پر مشک و زعفران سے نقشِ ذوالکتابت لکھ کر اپنے پاس رکھے اور تلاوت میں کثرت قلب میں رفت اور طبع میں حلت اختیار کرے تو باہیت و مقبول ہو۔ یہ مریع التدوں کا پہلے دیا چاچکا ہے۔

اگر جمع کے دن روٹی کے لئے پر سیوح قدوس رب الملک والروح تحریر کر کے اوپر ناد علیہ دم کر کے کھائے تو صفاتِ قدسیہ حاصل ہوں۔

اگر مذکورہ آیت مبارکہ اور ناد علیہ کو مریع حرمنی میں مشک و زعفران اور گلاب سے لکھ کر موسم بند کر کے کوزہ آب میں ڈالے اور اس پانی کو کسی ایسے شخص کو پلاۓ جو بدخواہ اور مردم آزار سخت کلام اور سخت دل ہو تو پروردگار عالم اسے خلقِ عظیم و رحم دلی عنایت فرمائے۔ حد و کینہ دل سے زائل ہو۔ جود و خاور حم و کرم کا حامل ہو۔

اگر کوئی شخص اس اسم کی دعوت کو پانچ سال تک بجالائے تو کبی کا محتاج نہ ہو۔ دل اس کا منور ہو عمر دراز ہو۔ آثار علوی بھی تحریر میں آجائے۔ مثل برقر ور عدو باراں و بادو غیرہ اور بیجات بات و کرامات کا مالک ہو۔

دفیعہ حوادث و مصائب

یہ کل بیس نمازیں ہوتی ہیں۔ جن میں سے پانچ فقہ کے اندر مشہور ہیں۔ یعنی صلوٰۃ الجماز، صلوٰۃ لکسوف، صلوٰۃ الاستقاء، صلوٰۃ تحریۃ المسجد، صلوٰۃ الاستخارہ، اور صلوٰۃ تحریۃ الوضو۔ باقی پندرہ میں سے اہم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

صلوٰۃ حاجت

یہ دور کعتِ نفل ہوتی ہے۔ ہر ایک رکعت میں آٹھ مرتبہ الحمد شریف اور سات مرتبہ قل هو اللہ پڑھے اور نماز کے بعد سجدہ میں جا کر ناد علیہ ستر پار پڑھے۔ جو شخص اہم ضرورت کے وقت اس نماز کو ادا کرے گا وہ حاجت روا ہوگی۔

چاہئے کہ جب تک حاجت روائی نہ ہو روزانہ اس نماز کو پڑھے یعنی چوبیں گھنٹوں میں صرف ایک بار۔

صلوٰۃ برات والدین

یہ نماز والدین کو ثواب بخشے کے لئے ادا کی جاتی ہے۔ جو شخص اس نماز کو پڑھ کر والدین کو ثواب بخشے گا بے شک اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔
یہ جمعرات کے دن عشاء اور مغرب کے درمیان دور رکعت نفل اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف ایک مرتبہ اور آیت الکریم پانچ مرتبہ اور اسی طرح مودع تم پانچ پانچ مرتبہ پڑھے اور نماز کے بعد پندرہ وفع استغفار پندرہ بار تاد علی اور پندرہ بار درود شریف پڑھے پھر اس کا ثواب والدین کو بخشے۔

صلوٰۃ استخارہ سفر

سفر سے پہلے صلوٰۃ الاستخارہ پڑھے اور جب سفر کو نکلے تو چار رکعت نفل ادا کرے جس میں الحمد شریف اور قل شریف پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر تاد علی ستر بار پڑھے تو یہ دور رکعت اس کے مال اور اہل کو کافی ہوں گی۔

صلوٰۃ القضاۓ الدین

اگر قرض کسی حالت میں نہ اترتا ہو تو جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔

طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف ایک مرتبہ اور قل اموجہ برب المثلق دس مرتبہ پڑھے دوسری رکعت میں الحمد شریف ایک مرتبہ اور قل یا لکھا اکافروں دس مرتبہ پڑھے اور دور رکعتوں کا سلام پھیر کر سات بار تاد علی پڑھے۔

پھر انٹھ کر دور رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد ایک مرتبہ سورہ الہاکم

الحاکم تین مرتبہ سورہ عصر تین مرتبہ سورہ اذ ازالت الارض تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں پڑھنے نماز سے فارغ ہو کر سجدہ میں دعا مانگے۔ اور پھر بیٹھ کر دعا مانگے۔

کشش پیدا کرنا

اگر کوئی اپنے چہرے میں زبردست حتم کی کشش پیدا کرنا چاہے تو اس عمل کو کرے۔ اللہ کے حکم سے جو کوئی بھی دیکھنے گا وہ حیران ہو گا۔ روزانہ بعد نماز فجر دعا کے بعد مصلے پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کرے اور گلاب کا عرق چینی کی پیالی میں اپنے پاس رکھے۔ اگر خواتین اس عمل کو کریں تو اپنے سر کو ضرور ڈھانپیں اور اگر مرد اس عمل کو کرے تو ننگے سر اس عمل کو کرے۔

ہاتھ پر ہاتھوں کو دعا مانگنے والے انداز میں اپنے سامنے رکھے اور ان حروف کو آہستہ آہستہ اپنی زبان سے نکالے (ح م ع س ق۔ ک ه ی ع ص) ایک مرتبہ اس کو پڑھ لینے کے بعد عرق کی پیالی پر دم کرے اور اس عمل کو اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے کم از کم ایک گھنٹہ کرے پھر سب سے آخر میں اس عرق کی پیالی میں سے تھوڑا سا عرق نکال کر اس پر نادیٰ سات پار دم کرے اور اپنے چہرے پر ملے اور جو باتی بچے اس کو پیلے۔ اللہ کے فضل سے چہرے پر قوت اگیز کشش پیدا ہوگی۔

دانے اور سرخ نشان

اگر کسی کے چہرے پر سرخ رنگ کے دانے نکلتے ہوں یا دانوں سے چہرے پر نشان پڑ گئے ہوں یا چہرہ بھدا ہو ان سب کے خاتمے اور اس میں کشش پیدا کرنے کے لئے بیبل کے پتے لائے جائیں یہیں پتے خشک ہونے چاہئیں۔

روزانہ ایک پتے کو سچ نہار منہ اپنے چہرے پر پانچ منت تک نادیٰ پڑھتے ہوئے پھرے اور اس عمل کے دوران ح م ع س ق۔ ک ه ی ع ص کو اوپر والے ائمہ کے مطابق دھرائے اور اس پتے پر دم کر کے اسے دہنے ہوئے ایک کوکلے کے گلے پر

رکھ کر اس کی دھونی اپنے منہ کو دے اور اس عمل کو سات دنوں تک مسلسل کیا جائے ہر نشان و دلائے کا جڑ سے خاتمہ ہو گا۔

سخت مصیبت دور

اگر کوئی ایسی مصیبت میں بنتا ہو جائے جس سے کوئی بھی کام نہ آ رہا ہو یا دنیاوی کوئی بھی کام سیدھا نہ ہوتا ہو ہر طرف سے مصیبتوں نے گھیرا ڈالا ہو تو ناد علی بعد نمازِ حجہ اور رات کو بعد نمازِ عشاء ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھئے اور اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک کام کے بد لے میں ضرور ان مصائب سے چھکارا دلوائے گا جس میں کوئی بھی پھنس چکا ہو گا۔

سختی و مصیبت کا اعلان

دنیا جہاں کی مصیبتوں و پریشانیوں سے دور رہنے اور اللہ کی کامل رحمت کی اپنے اوپر ہر وقت بارش بر سوانے کے لئے ناد علی کو روزانہ کسی بھی وقت میں کم از کم گیارہ مرتبہ پڑھئے یا ہر فرض نماز کے بعد اسے گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنالے اللہ کے حکم سے زندگی گذارنے میں راحت و آسانی پیدا ہو گی۔

غم دور کرنا

ہر طرح کے دکھ، تکلیف اور دنیاوی غمتوں کو دور کرنے کے لئے ناد علی کو روزانہ پاک و صاف مقام پر بعد نمازِ عشاء ایک شیخ پڑھنے کا معمول بنالے اللہ کے حکم سے کوئی بھی دکھ غم نزدیک نہیں آئے گا۔

پوشیدہ حالات جانا

ہر قسم کی بات کے متعلق استخارے والے انداز میں پڑھنے اور جتنی باتوں کے معلوم کرنے کے لئے ناد علی کو رات کو سانے سے پہلے ایک شیخ پڑھ کر سو جائے۔ جس

بات کا پتہ لگانا ہواں کا تصور باندھے۔ صحیح معلوم ہو گا۔

بندش خواب بد

پرے خوابوں کی آمد ڈروخوف سے دور رہنے کے لئے نادِ علیٰ کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پانچ مرتبہ پڑھ کر سو جائے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے انہیں اپنے منہ پر پھیر لیا کرے۔ کوئی بھی پراخواب یا ڈروخوف نزدیک نہیں آئے گا۔

ترقی دینی و دنیاوی

دينی و دنیاوی طور سے ہر طرح کی ترقی اور دنیاوی کاموں میں ہر طرح سے فتح حاصل کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو روزانہ تہجد کے وقت بعد نوافل کے گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنالے اور اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرے۔ اللہ کے حکم سے دینی و دنیاوی طور پر کوئی بھی کام ہواں میں ہر طرح سے فتح ہوگی اور اگر کوئی رکاوٹ یا پریشانی آڑے آتی ہوگی تو اس کا نفسی مدد سے تؤڑ ہو گا۔

ہر پریشانی دور

دنیاوی ہر قسم کی پریشانی کو اپنے پاس سے دور کرنے اور ہر کام میں فتح حاصل کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو روزانہ ایکس مرتبہ بعد نماز عصر پڑھنے اور اس کا باقاعدگی سے معمول باندھے۔ اللہ اپنی کامل رحمت پرستی سے اسے گا۔

ہر دعا قبول ہو

ہر دعا کی قبولیت اور ہر کام میں فتح حاصل کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو روزانہ ایک مخصوص وقت میں پاک و صاف کپڑے اور مقام پر پانچ سو کی تعداد میں پڑھنے اور اللہ سے اپنے مقصد کی دعا کرے اللہ رب العزت ہر دعا قبول فرمائے گا اور دینی و دنیاوی طور پر ہر طرح سے کامیابی نصیب فرمائے گا۔

حصار نادِ علیٰ

اگر گھر میں کوئی غیر انسانی مخلوق آ کر ڈرتی ہو یا کوئی بداعمال کے ذریعے پریشان کرتا ہو تو نادِ علیٰ گورات کو سونے سے پہلے پانچ مرتبہ اپنے بستر پر بیٹھ کر پڑھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تم مرتبہ تالی بجائے اور آخر میں اپنے پورے گھر کا تصور پاندھ کر پھونک مارے تو پورے گھر کا حصار ہو گا اور کوئی بھی غیر انسانی مخلوق اندر نہیں سکے گی۔

اسی طرح اگر کوئی مخصوص پڑھائی پڑھنے سے پہلے نادِ علیٰ پانچ مرتبہ چھڑی پر دم کر کے اپنے گرد دائرہ لگا کر اس کے اندر بیٹھ کر پڑھائی پڑھنے تو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔

بسط زرو مال و کار و بار

اگر کسی کی دکان نہ چلتی ہو تو نادِ علیٰ کو روزانہ دکان کو کھولے۔ بعد صفائی کرنے کے ایک عدد اگر بھتی سلاکئے اور نادِ علیٰ کو ایکس مرتبہ پڑھئے اور اپنی دکان کے کنوں میں پھونک مارے۔ دکان داری زیادہ چلے گی اور گاہک زیادہ آئیں گے۔

ہر کام میں برکت

ہر مقصد میں فتح اور ہر کام میں برکت حاصل کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو کار و باری مقام پر ایکس مرتبہ پڑھئے اور گھر میں بعد غماز عشاء گیارہ مرتبہ پڑھئے اور اپنے مقصد کا عمل تصور پاندھے اللہ کے حکم سے اگر مٹی میں ہاتھ دلائے گا تو وہ سوتا بن جائے گی۔ اگر کسی پر خوست کے بادل چھائے رہتے ہوں اور نہ سوچی کبھی سکیم کے تحت نقصان ہوتے ہوں تو ان کا کثرت سے ورد کرے اللہ رحمت کرے گا۔



مرضی کی شادی

جاہز طور پر شادی اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لئے اور ان افراد کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لئے جو اس جاہز کام میں خلل پیدا کرتے ہوں بعد نماز عشاء اکیس دنوں تک پانچ سو مرتبہ نادِ علیٰ پڑھے اور اپنے مقصد کا کامل تصور باندھے اللہ کے حکم سے اگر اللہ نے چاہا تو شادی وہاں ضرور ہوگی جہاں کے لئے اس عمل کو کیا جائے گا۔

میاں بیوی میں اتفاق

اگر میاں بیوی آپس میں سلوک و اتفاق سے تدریجیتے ہوں تو نادِ علیٰ کو بعد نماز فجر صندل کے شربت پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اسے سادہ پانی میں گھول کر دنوں میاں بیوی پیش سلوک و اتفاق قائم ہو گا۔

زبان بندی

اگر کوئی ناجاہز زبان چلاتا ہو جس سے دل دکھتا ہو اور حاسد افراد اخلاقی حرکات کا تقدس پامال کرتے ہوں تو نادِ علیٰ کو اپنے مقصد کا تصور باندھ کر بعد نماز عصر چالیس مرتبہ پڑھے اور ان افراد کا کامل تصور باندھ کر ان پر دم کرے جو ناجاہز زبان چلاتے ہوں اللہ ان کی زبان بند کرے گا اور وہ کسی کا دل نہیں دکھا سکیں گے۔

حیاء پیدا ہو

اگر مردوں عورت دنوں یاد دنوں میں سے کوئی ایک بے حیائی کا کروارادا کرتے ہوں اور اس سے دوسرے افراد ان سے نفرت کرتے ہوں اور ان کی اصلاح چاہتے ہوں تو نادِ علیٰ کو بیٹھے پانی پر دم کر کے ان کو پلا میں۔



طلی محبوب

اگر کسی کا محبوب کہیں ناراض ہو کر چلا گیا ہوا اور واپس نہ آتا ہو یا کسی کامیاب اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اس سے کوئی بات چیت نہ کرتا ہوا اور اس سے اچھے تعلقات نہ پیدا کرتا ہو تو اس قسم کے کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے نادعی کو کسی مشتعل پانی پر درم کر کے پلانے اور اگر واپس بلانے کے لئے ان آیات کو روزانہ بعد نماز عشاء اکٹھہ مرتبہ پڑھئے اور محبوب کا کامل تصور باندھئے تو اللہ کے حکم سے محبوب واپس آئے گا اور ان کو آپس میں محبت ہو جائے گی۔

امراض چشم کا علاج

آنکھوں سے متعلق ہر قسم کے مرض کے خاتمے اور شفاہ حاصل کرنے کے لئے نادعی کو گلاب کے عرق پر ایکس مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اسے کسی احتیاط کی جگہ جہاں اس پانی کی بے ادبی نہ ہو اپنی آنکھوں کو صبح و شام دھونے اور اس عرق کو اپنی آنکھوں میں ڈالے اس کی برکت سے تمام قسم کے امراض ختم ہوں گے۔

درود کان

کان سے متعلق مختلف قسم کے امراض کے خاتمے اور نادعی کی بدولت شفایع کامل حاصل کرنے کے لئے نادعی گوسروں کے تیل پر دم کرے اور اس تیل کو روزانہ سبع اور رات کو سونے سے پہلے دو دو قطرے اپنے دوفوں کانوں میں ڈالے اور اس عمل کو جب تک جاری رکھے جب تک بیماریوں کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے فضل سے کان بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اگر کسی کو کم سنائی دیتا ہو تو وہ بھی اس عمل کو کرے۔ اللہ شفایع دے گا۔

وصولی قرض

اگر کوئی شریف انسان کسی کو اپنی حلال کی کمائی سے روپے دے چکا ہوا اور روپے

لینے والا واپس نہ کرتا ہو تو نادِ علیٰ کو روزانہ بعد نماز عشاء اکیس مرتبہ اپنے مقصد کا تصور باندھ کر پڑھے اللہ کے حکم سے جس نے روپے لئے ہوں گے اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ روپے ضرور واپس کرے گا۔

قرض اتر جائے

اگر کوئی فرد قرض دینے میں پھنس چکا ہو اور اس کا کوئی وسیلہ نہ بتا ہو۔ عزیز رشتہ دار سب من موز چکے ہوں تو نادِ علیٰ کو روزانہ کسی صاحب کرامت بزرگ کے مزار پر جا کر قبلہ رخ ہو کر اپنے مقصد کا مکمل تصور باندھ کر پڑھے۔ اللہ کے حکم سے غیب سے قرض کی ادائیگی کا کوئی وسیلہ ضرور بنے گا۔

فقر و فاقہ دور

کوئی بھی نجف دست انسان یا غربی و مفلسی میں پھنسا ہوا فرد نادِ علیٰ کو اپنے مقصد کے لحاظ سے نہایت عاجزی کے ساتھ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ہر روز اکتا یہیں مرتبہ پڑھنے کا معمول بنالے اللہ کے حکم سے چند دنوں کے اندر غربی و مفلسی کا خاتمه ہو اور غیب سے رزق کے وسائل بنیں گے۔ انشاء اللہ۔

حالات میں بہتری

گھر میں ہر طرح کے سکون اور امن و امان قائم رکھئے اور آپس میں سلوک و اتفاق سے رہنے کے لئے نادِ علیٰ کو بعد نماز ظہر اکتا یہیں مرتبہ مٹی کے گھرے میں پانی رکھ کر دم کرے اور اس پانی کو بھی استعمال کریں عمل کی مدت اکیس دن ہے۔

رزق میں غیبی امداد

غیبی طریقے سے رزق کی آمد و دنیاوی مشکلات کے سو فصدی خاتمے کے لئے ایک عدد تابنے کا ایسا چراغ بنوایا جائے جس میں تحریف مقطعات کندہ ہو سکیں پھر اس

میں رسول کا تیل ڈال کر ہر جمعرات کو قبلہ رخ جلانے اور اس کے سامنے بیٹھ کر پاک و باوضو حالت میں نادِ علیٰ اور ان آیات کو ایک سو ایک کی تعداد میں پڑھنے اور بحمدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا مانگ۔

اس عمل کا ذکر کسی سے مت کرے اللہ نے چاہا تو ایسے طریقے سے رزق کی آمد ہوگی کہ مگماں بھی نہیں کر سکے گا۔ اگر اس عمل کو کوئی خاتون کرنا چاہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھ کر اپنے مخصوص ایام میں ہرگز اس عمل کو نہ کرے اور نہ ہی ان آیات کا ورد کرے۔ مرد حضرات ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہو کر اس عمل کو کریں اللہ ضرور اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔

نقسان سے حفاظت

اگر کہیں دور دراز سفر کرنے کا ارادہ ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی نقسان نہ ہو جائے تو نادِ علیٰ کو سفر میں جانے سے پہلے ایکس مرتبہ پڑھ کر جائے اور اگر ہو سکے تو سفر کے دوران بھی پڑھتا جائے۔ اللہ نے چاہا تو کوئی بھی ایسا حادثہ رونما نہیں ہوگا جس سے جانی و مالی نقسان ہو سفر و مسافر دونوں ہی اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔

اگر کوئی مقدارے یا نوجداری جیسے ٹکین جرم میں ناجائز پھنس چکا ہو اور نکلنے کی کوئی ترکیب نہ تکلتی ہو تو نادِ علیٰ کو اپنے گھر میں سوا لاکھ کی تعداد میں پڑھوائے اور کوئی میٹھی شے ضرور پکوا کر غریب ہوں میں تقسیم کرے اور اگر ہو سکے تو قیدی کو نادِ علیٰ پڑھنے کی ہدایت بھی کی جائے، نبھی امداد ہوگی۔

دشمن کے شر سے حفاظت

اگر کوئی سفاک دشمن مسلمان بھیں بھائیوں کو پریشان کرتا ہو اور مختلف قبیح اعمال سے ان کا ہر طرح سے نقسان کرنا چاہتا ہو اور کوئی بھی تدبیر کام نہ آرہی ہو تو نادِ علیٰ کو ایکس عدد کالی مرچوں پر ایکس مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور دشمن کا تصور باندھ کر اس پر دم

کرے۔ اس عمل کو تین دنوں تک مسلل اور پر درج عمل کے مطابق کرے اور چوتھے روز ان کا لی مرچوں کو چورا ہے سے تین عدوں کنکرا خا کر ان میں رکھ کر کسی طریقے سے دشمن کے گھر میں رکھوا دے اور قدرت الہی کا تماشہ دیکھے۔

اس عمل کو ناجائز جگہ نہ کیا جائے کیونکہ اس عمل کی بدولت اللہ کا عذاب اترتا ہے اور ناجائز اس عمل کو کرنے کی صورت میں عذاب صاحب عمل پر بھی اتر سکتا ہے، اس لئے بہت سوچ بھجو کر اس عمل کو کیا جائے۔

زبان بندی اور دشمنی کے خاتمے کے لئے اس عمل کو بالکل اور لکھنے گئے طریقے کے مطابق کرے۔ اللہ حامی و ناصر ہو گا۔

عزت و رخلاف

اگر کسی فرد کی کوئی عزت نہ کرتا ہو یا باوجود اسے پریشان کرتا ہو تو ناد علی گور وزان بعد نماز عشاء اکیس مرتبہ پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا مانگے اور اپنے مقصد کا مکمل تصور پاندھے۔ اس عمل کو ۲۱ دنوں تک مسلل کرے اور بعد ختم ناد علی گور اپنے چہرے پر دم کیا کرے۔

اللہ کے حکم سے جو کوئی بھی اس فرد کو دیکھے گا اس کی عزت کرے گا لیکن اس عمل کا کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ اس عمل کو ایسے افراد بھی کر سکتے ہیں جو آپس میں سلوک و اتفاق سے نہ رہتے ہوں اور ہر وقت معمولی باتوں پر جھگڑتے ہوں دنوں میں سے جو بھی عمل کرے گا اس کی عزت و وقار بلند ہو گا۔

عمل حب شجری

یہ ایسا عمل ہے جس سے محبوب کے دل میں اپنی محبت قائم کی جاسکتی ہے اگر میاں یہوی کے دل میں بھی پیار یا محبت نہ ہو اور وہ ایک دوسرا سے شدید غرفت کرتے ہوں تو سب کے درخت کی جڑ کی مٹی ایک کولا کر اس کو جہاں اس عمل کو کرنا ہے وہاں رکھا جائے اور اپنے مقصد کا مکمل تصور پاندھے کر تھوڑی سی مٹی پر ناد علی گور اکتا لیں مرتبہ

پڑھ کر دم کیا جائے۔ مٹی اتنی ضرور ہوئی چاہیے جس سے سات دن اس عمل کو کر کے مٹی ختم ہو جائے۔ روزانہ بعد نماز عشاء اس عمل کی ابتداء کی جائے اور اکتا لیں مرجبہ اسے پڑھ کر کسی کپڑے میں اس مٹی کو رکھا جائے۔

آٹھویں دن جہاں سے مٹی لی تھی وہاں سے تھوڑی جگہ کھوڈ کر اس مٹی کو وہاں دفن کر دیں اس تمام عمل میں اپنے مقصد کا مکمل تصور باندھا جائے تاکہ سو فیصدی کامیابی ہو۔

افران و حکام مہربان

اس عمل کو ایسے ملازم پیش افراد کریں جن کے حاکم یا افسرا چھا سلوک نہ کرتے ہوں اور بلا وجد ناراض ہو کر تو کری سے نکلنے کی دھمکی دیتے ہوں۔ اللہ کے حکم سے اس عمل کی بدولت حاکم و افسر زیر ہیں گے اور ایسے جائز کام ضرور کریں گے جو صاحب عمل کے حق میں ٹھیک ہوں۔

روزانہ بعد نماز فجر اس عمل کا آغاز اس طرح کیا جائے کہ روزانہ ایک تسبیح ناویٰ پڑھ کر سادہ پانی پر دم کرے اپنے کام کا مکمل تصور باندھے اور اگر کوئی مخصوص افسر یا حاکم ہو تو اس کا نام مع والدہ لے اور بعد اس تسبیح کے تھوڑا سا پانی من پر ملنے کے بعد جو باقی پچھے اسے پی لے اور اس عمل کا کسی دوسرے سے ذکر نہ کرے خاموشی سے اس عمل کو کرتا جائے۔ اللہ مسبب الاصباب ہے۔

تبادلہ روکنا

اگر کوئی ملازم کہیں نوکری کرتا ہو اور دوسرے حاصلہ افراد اس کے خلاف ناجائز باتیں کر کے افسران کو بھڑکاتے ہوں اور اس کا تبادلہ کسی اور جگہ کروانا چاہتے ہوں جس سے ملازم کو کافی نقصان ہوتا ہو تو چاہے ایسی کیفیت پیدا ہونے سے پہلے یا بعد میں ناد ملی گو روزانہ بعد نماز عشاء ورد کر کے سو جایا کرے اور اللہ سے اپنے مطلب کی دعا کیا کرے۔

اللہ کے حکم سے دوسرے حاصل افراد اس کا کچھ نہیں بگاؤ سکیں گے اور اگر کوئی دیے بھی نادلی کا عمل اس مقصد کی خاطر اسی طرح کرتا جائے جیسے اور پرکھا گیا ہے تو کوئی بھی حاصل اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ۔

عمل ہمزار

اگر کوئی پاک و باوضوحالت میں ہر وقت رہنے کا عادی ہو اور اسے کسی زبردست عمل کی تلاش ہو تو کامل پرہیز جلالی و جمالی کرتے ہوئے ایک عدد تابے کا ایسا چار غبغواں یا چھپے کی میز کے سہارے رکھے اور روزانہ بعد نماز عشاء نادلی کو اپنے مقصد کا کامل تصور پاندھ کر اتنا پڑھ کر صبح فجر کی نماز پڑھ کر سو جائے اور نماز ظہر سے پہلے انھوں جائے پاک و پرہیز گاری کا عملی طور پر زبردست تاثراں عمل کو کامیاب ہونے میں چار چاند لگادے گا اور ڈروخوف کو اپنے پاس بھی نہ آنے دے۔

اللہ کے حکم سے چالیس دن کے اندر اندر ہمزار ضرور متفکل ہو کر سامنے آ کر کلام کرے گا اور اس کی ترکیب کیا ہوگی اس کے لئے میری کتاب شرائط چله کا مطالعہ کیا جائے۔

برائے نکاح

اگر کسی کنواری لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو یا اس بات کی مکمل تصدیق ہو چکی ہو کہ اس پر کسی پدروخ، سایہ آسیب یا بد اعمال کا اثر ہے تو اس عمل کو ایسے کیا جائے کہ وہ لڑکی خود اپنے پہنچنے ہوئے دوپتے کو چھوٹے ٹھکروں میں پھاڑ کر روزانہ ایک ٹکڑے پر نادلی کو اپنے مقصد کا مکمل تصور پاندھ کر اکیس مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھے اور اسے کوئے پر رکھ کر اس کی دھونی اپنے پورے جسم کو دے۔

سات دن اس عمل کو کرنے کے بعد نادلی کو صبح و شام ایک تینج پڑھنے کا معمول ہتھے اور اس سے آگے ”ہر کام والا“ متعلق نقش زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں

باندھے اللہ کے حکم سے جو بھی رکاوٹ ہوگی اس کا ضرور خاتمہ ہوگا اور چند دنوں کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں نسبت ملے پائے گی۔ انشاء اللہ۔

عامل سوء کا علاج

اگر کوئی بد کرد ار عامل اپنے ناجائز علم کی بدولت دوسرا مسلمانوں کو پریشان کرتا ہو اور طرح طرح کی اذیت اپنی ہوائی چیزوں کے ذریعے دیتا ہو تو اس کا عمل باطل کرنے اور اس سے سلب کرنے کے لئے دریا سے لوہے کے برتن میں پانی بھر کر لائے اور نادو علی گور و زان بعد تماز عشاء اس عامل کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ کر دریا سے لائے ہوئے پانی پر تھوڑا سا نکال کردم کرے اور اس پانی کو مصلے کے ارد گرد بھیر دے یا اگر عامل کا گھر نزدیک ہو تو اس پانی کو اس کے باہر والے دروازے پر چھڑ کے اور اپنے مقصد کا مکمل تصور باندھے۔ اللہ کے حکم سے اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اس سے چھین جائے گا۔ انشاء اللہ۔

گھر اور دکان کا حصار

اگر کسی گھر یا دکان میں غیر انسانی مخلوق رہتی ہوں یا کسی فرد پر اپنا غلبہ جاتی ہو تو نار علی گولو ہے کے چار عدد کیلوں پر ایکس ایکس مرتبہ پڑھ کردم کرے اور انہیں اپنے گھر کے صحن کے چاروں کونوں میں گاڑ دے۔

اگر دکان ہو تو دکان کے چاروں کونوں میں بھی اسی عمل کو دہراتے اللہ کے حکم سے اس کے کامل اثرات سے کوئی بھی غیر انسانی مخلوق کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور اس کا اثر باطل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کئی واضح نشایاں ظہور میں آئیں گی جس سے اس بات کا با آسانی معلوم ہو سکے گا کہ اب اس کا اثر موجود نہیں رہا۔

حُبِ سرِ لعْنَ التَّاثِير

یہ ہے اسرائیل التاثیر عمل ہے لیکن کام جائز ہونا چاہیے۔ اس عمل کی شروعات تو

چندی جمرات کو کی جائے۔ محبوب کی تصویر پر نادِ علیٰ کو ایکس مرتبہ تازہ دم کر کے موز کرتی کی شکل بنائے اور اسے چراغ میں جائے اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے محبوب کا کامل تصور باندھ کر نادِ علیٰ کو پڑھ پڑھ کر اس کی تصویر کو دم کرتا جائے۔ ایکس دن اس عمل کو بالکل باقاعدگی کے ساتھ بعد نماز عشاء کرے اور اس کے خواص خود یکھ لے۔

رنج و خم دور کرنا

دنیاوی ہر دکھنے کے لئے ناجائز سے نجات اور خوش و خرم رہنے اور اللہ کی رحمت بر سوانح کے لئے نادِ علیٰ کو روزانہ بعد نماز فجر ایکس مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی دعا مانگنے اللہ کے حکم سے جو کوئی بھی دکھ ہوگا اللہ اس سے ضرور نجات دے گا۔

موت کی سختی سے نجات

اگر کوئی فرد ہر نماز کے بعد نادِ علیٰ کو صبح و شام سات سات مرتبہ پڑھنے کا معمول بنالے اور کسی دوسرے کا دل تدھکائے اور نہ ہی کوئی غیر شرعی حرکت یا کام کرے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ موت کی سختی سے ضرور نجات دے گا اور اپنی کامل رحمت بر سانتے ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔

شیطانی اثرات کا علاج

شیطانی اثرات سے محفوظ اور شیطان کے طور طریقوں کو باطل کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو صبح و شام پانچ پانچ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنالے اور اسی عمل میں زیادتی پیدا کرنے کے لئے ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھے۔ یہ ایک دن میں پانچ مرتبہ ہوگا بعد پڑھنے کے اپنے سینے پر دم کر لیا کرے اللہ شیطانی اثرات کو دور فرمائے گا۔

اگر بچے بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہوں اور شیطانیاں کر کے خوش ہوتے ہوں تو نادِ علیٰ کو صبح و شام تازہ پانی پر دم کریں اور پہلے بچوں کے سینے پر اس پانی کو ڈلیں۔ پھر باقی

پانی بچوں کو پلاٹیں۔ بچوں کی اصلاح ہو گی اور وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے والدین پر یثان ہوتے ہوں۔

ہر نقصان سے حفاظت

اگر کسی کا کاروباری نقصان ہوتا ہو اور کوئی صحیح وجہ بھی سامنے نہ آتی ہو تو نادِ علیٰ کو روزانہ صبح و شام اکیس مرتبہ پڑھئے اور اللہ سے گزر گز اکر دعاء مانگے اس عمل کو اکیس دنوں تک کرے اللہ کے حکم سے ہر نقصان کا خاتمہ ہو گا۔

سر میں نقصان سے محفوظ رہنے کے لئے نادِ علیٰ کو گھر سے پڑھ کر جائے۔ دنیاوی کسی انسان کے کئے ہوئے نقصان کا اثر باطل ہو گا اور وہی ہو گا جو اللہ چاہے گا۔

عمل قضاۓ حاجات

دنیاوی تمام مشکلات و مصیبتوں کے خاتمے اور قضاۓ حاجات کے لئے نادِ علیٰ کو ہر نقل نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھئے اور پانچوں نمازوں میں اسی طرح پڑھئے۔ اسی عمل کی بدولت دنیا میں جس شے کی ضرورت ہو گی وہ پوری ہو گی اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا حاجج نہیں کرے گا۔

نیان کا علاج

اگر کسی کو بھولنے کی عادت ہو یا بچے جو کچھ پڑھتے ہوں وہ بھول جاتے ہوں یا کوئی دفتر میں کام کرنے والا فرد ہر بات بھول جاتا ہو تو نادِ علیٰ میٹھے بادام کی ایک گری پر رات کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر سو جائے اور اسے پانی میں بھگو دے صح نہار منہ اس بادام کو اپنے منہ میں چبا کر چو سے اور اس کے پھوگ کو کسی پودے میں ڈال دے۔ اس عمل کو سات دنوں تک کرے۔

دفع سحر و نظر بد کے خاتمے کے لئے نادِ علیٰ کے اعداد کی تعداد میں کالے ماش ثابت پر دم کر کے انہیں قبرستان میں مریض کے سات پھر سے اتار کر دفنا دے اور تازہ پانی پر دم کر کے پہنچنے والی وقت نظر بد سحر کا خاتمہ ہو گا۔

ہر مرض سے شفاء

شفا حاصل کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو سادہ پانی پر اکیس مرتبہ دم کر کے پیا جائے اللہ کے حکم سے اسی وقت صحت ہو گی۔ فقر و فاقہ سے محفوظ رہنے کے لئے روزانہ رات کو اکتا لیس مرتبہ پڑھ کر سو جائے اور اس عمل کو اکتا لیس دنوں تک کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے عُنک دتی کے دن کٹ جائیں گے۔

نادِ علیٰ کا عامل بننے کے لئے نادِ علیٰ کو روزانہ بعد نماز عشاء ایک ہزار ایک کی تعداد میں ورد کرے اور سادہ پانی پر دم کر کے پی جائے۔ بعد چالیس روز کے عامل ہو جائے گا۔ کسی سے اس امر کا ذکر ہرگز نہ کرے۔

حافظت حمل

حامد عورت اپنے ان دنوں میں ہر قسم کی بدنظر اور بد اعمال سے محفوظ رہنے کے لئے نادِ علیٰ کو زبانی یاد کرے اور اس کا کثرت سے ورد کرے یا اسے کسی مخصوص وقت میں حروف ابجد کی لکھی گئی تعداد کے مطابق تازہ پانی پر دم کر کے پہنچنے والے اللہ کے فضل سے کوئی بھی بد عمل یا بدنظر کوئی خلل نہیں ڈالے گی۔

عمل کشف قبور

کامل پرہیز جلالی و جمالی کرتے ہوئے نادِ علیٰ کو روزانہ حروف ابجد کی تعداد میں کسی بھی صاحب کرامت بزرگ کے مزار پر پڑھے۔ مقصد میں کامیابی ہو گی۔

حیض کی بے اعتدالی

حیض کی بے اعتدالی اور امراض مخصوص کے عمل خاتمے کے لئے نادلی کو اپنے ہاتھ کی کسی بھی پہنی ہوتی انگوٹھی پر حروف ابجد کی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور اسے کسی برتن میں ڈال کر پانی کے ساتھ آگ پر رکھے۔ خندنا ہونے پر انگوٹھی اندر ہتھی رہنے والے اور تمیں دنوں کے اندر اس پانی کو پی لے۔ جتنے بھی اندر ہوتی یا پیر ورنی مخصوص امراض ہوں گے ان کا عمل خاتمہ ہو گا۔ پھر اپنی انگوٹھی کو پہلے کی طرح ہاتھ میں پہن لے۔

حاضرات الارواح

حاضرات الارواح اور نیک روحوں کو بلا نے اور ان سے دنیاوی کاموں میں کامیابی کے لئے نادلی کو روزانہ بعد نماز عشاء حروف ابجد کی تعداد میں چراغ جلا کر پڑھے۔ اللہ کے حکم سے نیک ارواح حاضر ہوں گی لیکن ان سے ڈرنا نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا کام کہا جائے جو شریعت کے خلاف ہو کیونکہ نادلی کے زیر اثر جو ارواح حاضر ہوں گی وہ نیک و پرہیز کا رہوں گی۔ اس لئے اس اگر ساری زندگی ان سے نیک کاموں میں فائدہ حاصل کرنا ہو گا تو یہ ضرور ساری زندگی نیک کاموں میں مدد کریں گی۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی پلید عمل یا شریعت کے خلاف کام کہا گیا تو یہ خود واپس لوٹ جانے کے علاوہ صاحب عمل کو ساری زندگی کے لئے معدود کر جائیں گی۔

حیض کثرت سے یادو سے آنا

حیض کا کثرت سے یادو کے ساتھ آنے کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک عدد سرخ ڈوری کو اپنے قد کے برابر سات مرتبہ اتارے اور اس کے درمیان میں ایک گرہ ایک مرتبہ نادلی کو پڑھ کر لگائے پھر دوسری پر دو مرتبہ تیسری پر تمیں مرتبہ غرض سات گرہ تک سات مرتبہ پڑھ کر اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑئے اور اس پر حروف ابجد کی تعداد کے مطابق نادلی کو پڑھ کر دم کرے اور اس کو اپنے گلے میں باندھے۔ اللہ کے حکم سے

حیض بالکل نمیک طرح سے آئے گا۔

بندش حیض

اگر حیض آنا بند ہو جائے تو کالی ڈوری لا کر اس کو گلب کے عرق میں بھجو وے اور اس عرق کو چینی کی پیالی میں رکھے بعد اس عمل کے پیالی والے عرق کو گلب کے پودے میں ڈال دے اور خشک ہونے پر ناد علی گوستر کی تعداد کے مطابق اس ڈوری پر دم کرے اور اسے اپنے گلے میں باندھے۔

رحم کی خارش

رحم، فرج، و انداام نہانی کی خارش اور اس سے متعلقہ تمام جملہ امراض کے خاتمے کے لئے ناد علی گو ہروف ابجد کی تعداد میں مشتمل کی بوتل میں پانی بھر کر اس میں دم کرے اور اسے صحیح نہار منہ سے لے کر دن کے کئی حصوں میں پیے اور ختم ہونے پر دوبارہ دم کرے۔ امراض مخصوصہ کا مکمل خاتمہ ہو گا۔

لیکور یا اور بدبو

لیکور یا اور شرم گاہ کی بدبو کے خاتمے کے لئے صندل کے خالص شربت کی بوتل میں ناد علی گو ہروف ابجد کی تعداد میں بعد نماز جمعہ پڑھ کر دم کرے اور اس شربت کو سادہ پانی میں ملا کر استعمال کرے۔ اس سے شرم گاہ کی بدبو ختم ہو گی۔
لیکور یا کے خاتمے کے لئے چھالیا پر اسی تعداد میں دم کر کے صحیح و شام اس چھالیہ کا استعمال کرے۔ لیکور یا کا خاتمہ ہو گا۔

امراض خبیثہ کا علاج

آٹھ سرعت ازوال، و احتلام کے خاتمے اور اس کے رو ہانی علاج کے لئے ایک عدد چینی کی سفید رنگ کی پلیٹ پر اپنی شہادت کی انگلی سے اتنا شہد پھیلائے جو آسانی

سے کھا سکے۔ پھر اس پر نادِ علیٰ کو حروفِ ابجد کی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور اپنی شہادت کی انگلی سے لگا کر چانے۔ تینوں امراض کا بیک وقت روحانی علاج ہو گا۔

دریزہ سے نجات

دریزہ سے نجات کے لئے تازہ پانی پر ایک ہی جلنے میں نادِ علیٰ کو حروفِ ابجد کی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور اس عورت کو پلانے پیدائش میں آسانی ہو گی۔

حافظتِ حمل

حافظتِ حمل کے لئے نادِ علیٰ کو روزانہ کسی مخصوص وقت میں ایک ہی جلنے میں اپنے متعدد کا تصور باندھ کر تازہ پانی پر ایک سو ایک بار دم کر کے پٹے اور چلتے پھرتے بھی باوضو حالت میں اس کا ورد چارڈی رکھے۔ اللہ کے حکم سے حمل حفاظت میں رہے گا اور پیدائش تک کوئی بھی غیر انسانی یا انسانی مخلوق کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔

صاحبِ اولاد ہونا

صاحبِ اولاد ہونے کے لئے اور اس کے درمیان تمام رکاوٹیں کو دور کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو چھالیہ کے سات داؤں پر اس کی عددی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور اسے اپنے استعمال شدہ دوپٹے کو پھاڑ کر درمیان میں رکھے اور اسے اپنی کمر میں باندھے۔ سات دن باندھ کر اسے اتارے اور اپنے خاوند سے ہم بستی کرے اور غسل کر کے پھر اسے اپنی کمر میں باندھے۔

اس عمل کو بت مسئلہ کرے جب تک حمل قائم نہ ہو جائے اللہ کے حکم سے حمل قائم ہو گا اور اولاد زیست پیدا ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔

اٹھرا کا خاتمه

اٹھرا کے خاتمے کے لئے نیلے رنگ کے سات دھاگے علیحدہ علیحدہ آپس میں

بٹے اور ایک ہی جلے میں نادِ علیٰ کو حروفِ ابجد کی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور اسے اپنی کمر میں باندھے اور اسی آیت کا دم شدہ پانی پئے اللہ اپنی رحمت بر سائے گا۔

بچہ پیٹ میں سوکھ جائے

اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ میں سوکھ جائے یا مر جائے اور باہر نہ لکھتا ہو تو نادِ علیٰ کو حروفِ ابجد کی تعداد میں پڑھ کر حقے کے پانی پر دم کرے اور اسے پلاٹے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور بچہ جس حالت میں ہوگا باہر آئے گا اور اگر بچہ زندہ سوکھ گیا ہو تو بھی اس کی بیدائش فوراً ہوگی۔ انشاء اللہ۔

مان و سوکھا پن

مان و سوکھا پن کے خاتمے اور اس سے محفوظ رہنے کے لئے بزرگ کے دھاگے پر نادِ علیٰ کو حروفِ ابجد کی تعداد پڑھ کر دم کرے اور سات گرہیں ایک ہی وقت میں لگا کر بچے کی بیدائش سے پہلے عورت اپنے گلے میں باندھے اور بعد پیدائش کے اس دھاگے کو بچے کے گلے میں پہنائے مال و بچہ دونوں ہی مان سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کوئی نوجوان سوکھے پن میں بیٹلا ہو جائے اور کوئی بھی دعا علاج کے لئے کام نہ آ رہی ہو اور اس کا مرض بڑھتا ہی جائے تو نادِ علیٰ کو روزانہ تین دنوں تک زخون کے تیل پر اسی کی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور بعد تین دنوں کے اس تیل کی ماش مریض کے پورے جسم پر کرے۔

بچوں کی ضد

بچوں کی ناجائز ضد اور ان سے متعلق تمام بیماریوں میں ترقی ذہن اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے نادِ علیٰ کو حروفِ ابجد کے مطابق گلاب کے عرق پر دم کر کے پلاٹے۔ بچہ ناجائز ضد ترک کرے گا۔ ترقی ذہن کے لئے شہد پر اسی تعداد کو دم کر کے کھلائے ذہن بھی کھلے گا اور

امتحان میں کامیابی ہوگی لیکن صدق دل سے دعا ضرور کرے۔

غلبہ بر دشمنان اسلام

دشمنان اسلام کو زیر کرنے اور ان پر فتح حاصل کرنے کے لئے ناد علی گو حروف ابجد کی تعداد میں بعد نماز عشاء پڑھنے اور اللہ سے اپنے مقصد کی دعا کرے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے عقیدے سے بیزار ہو چکا ہو اور اس کی اصلاح نہ ہوتی ہو تو اس کو اتنی بھی تعداد میں پڑھ کر کسی ترشی شے پر دم کر کے اسے پلاۓ اس کی اصلاح ہوگی۔

☆ اسی طرح اگر دو میاں یا ۳۰ آپس میں سلوک و اتفاق سے ندر جتے ہوں تو دونوں میں سے کوئی بھی ناد علی گو حروف ابجد کی تعداد میں کسی مخفی چیز پر دم کر کے پلاۓ یا کھلانے۔ دونوں میں سلوک و اتفاق قائم ہو گا۔

انتشارِ عدو

ظالموں کو آپس میں منتشر کرنے اور ان کی زبان بند کرنے کے لئے ناد علی گو بعد نماز عشاء ۸۰ بار پڑھ کر دشمنوں کا تصور کر کے ان کے چہروں پر دم کرے۔

جسمانی و روحانی امراض

تمام جسمانی و روحانی امراض کے خاتمے اور شفاء حاصل کرنے کے لئے ایک عدو دشمن کی یوں پر ناد علی گو سات سو سات بار پڑھ کر دم کر کے رکھ لے اور منج نہار من استعمال کرنے کے بعد دن کے کئی حصوں میں اسے استعمال کرے۔

اس کا استعمال تمام مختلف قسم کی بیماریوں کا خاتمہ کرے گا۔ اس کو ویسے بھی مریض کے جسم پر دم کیا جا سکتا ہے۔



الرجی کا علاج

کسی چیز سے الرجک ہونے اور اس کے خاتمے کے لئے نادِ علیٰ^۱ کو حروفِ ابجد کی تعداد میں مریغیں کے پسندیدہ مشروب پر دم کر کے صحیح نہار منہ ضرور پلانے۔ دن کے تین حصوں میں استعمال کرنا الرجی کا خاتمہ کرے گا۔

دنیاوی مصائب و مشکلات

دنیاوی مصائب اور مشکلات کے خاتمے کے لئے نادِ علیٰ^۱ کو حروفِ ابجد کی تعداد کے مطابق کسی مخصوص وقت میں روزانہ پڑھے اللہ کے حکم سے جس مقصد کے لئے اس کو درد کرے گا فوراً کامرانجام پائے گا۔

اگر کوئی بہت بڑی مصیبت میں بستا ہو تو بکثرت اس کا ورد کرے۔ اس کے علاوہ نادِ علیٰ^۱ کے دیگر اور بھی بہت سے فوائد ہیں وہ یہاں بیان نہیں ہو سکتے مختصر طور پر دنیاوی ہر مصیبت و مشکل کے خاتمے کے لئے اور اپنے ادھورے دنیاوی مقاصد کو مکمل کرنے کے لئے نادِ علیٰ^۱ کا ورد کرے۔

لا علاج مرض کا علاج

بعض حالات میں کسی مرض کا صحیح پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی اس کا علاج ہوتا ہے اس کے مکمل علاج اور سمجھ سے باہر مرض کی نشانہ ہی کرنے کے لئے نادِ علیٰ^۱ کو بعد نماز عشاء حروفِ ابجد کی تعداد میں تازہ پانی پر دم کر کے پئے۔ اللہ کے حکم سے جو مرض معلوم نہیں ہو گا وہ مکمل کر سائے آئے گا۔

اگر اس کا روحانی علاج ہو گا تو اس ورد سے وہ ہو جائے گا اور اگر کسی طبیب کا کام ہو گا تو بھی دوائی اپنا اثر کرے گی۔



جادوٹونہ سے نجات

بیماری اور جادوٹونے کے اثرات سے محفوظ رہنے اور اپنے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لئے نادِ علیؒ کو حروفِ ابجد کی تعداد میں دریا سے لائے ہوئے پانی پر دم کرے اور اس کے چینیتے اپنے گھر کے کوفوں میں دے۔ اس عمل کو سات دنوں تک کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے مقصود پورا ہوگا۔

امراض پیٹ

پیٹ سے متعلق تمام بیماریوں کے خاتمے کے لئے نادِ علیؒ کو حروفِ ابجد کی تعداد میں تازہ پانی پر دم کر کے پائے۔ کھلبی کے خاتمے کے لئے زیتون کے تیل پر اسی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور اس تیل کی ماش جسم کے کھلبی والے حصے پر کرے اور اس کا دم شدہ پانی پیئے۔ اللہ کے حکم سے شفاء ہوگی۔

افران و حکام سے بات منوانا

افران و حکام کو اپنے تابع کرنے اور ان سے اپنی جائز بات منوانے کے لئے نادِ علیؒ کو حروفِ ابجد کی تعداد کے مطابق پڑھ کر اپنے مقصد کا تصور پاندھ کر دیا کرے اور اس حرف کو اپنے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو کھول کر ایک ایک حرف کو اپنے افر کے سامنے دہرائے لیجنی من میں پڑھے اور انگلیوں کو کھولے۔

عمل مقبولیت عامہ

لوگوں میں مقبولیت اور ان میں شہرت حاصل کرنے کے لئے نادِ علیؒ کو اکیس دنوں تک حروفِ ابجد کی تعداد میں پڑھ کر اللہ سے اپنے مقصود کی دعا کرے۔ اگر کوئی کسی کی عزت نہ کرتا ہو تو نادِ علیؒ کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔

سفر میں حفاظت

دوران سفر خطر سے محفوظ رہنے کے لئے ناد علی^{کو} اپنے گھر میں کسی بھی نماز کے بعد سوار پڑھ کر جائے اور اس بات کا عہد کرے کہ واپس آ کر تینیں میں پھر پڑھوں گا۔ اللہ کے حکم سے جیسے جائے گا ویسے ہی آئے گا۔

اسرار مخفی جاننا

مخفی مخلوقات اور مخفی اسرار جاننے کے لئے ناد علی^{کو} تو چندی جصرات بعد نماز عشاء حروف ابجد کی تعداد میں پڑھے اور اللہ سے اپنے اس مقصد کی دعا کرے۔ اس کائنات میں اللہ نے جو بھی مخفی مخلوق بنائی ہے اس کے متعلق معلوم ہوگا اور ان سے رابطہ ہوگا۔

ناممکن کام ہونا

ہر ناممکن مقصد کو کامیاب بنانے کے لئے ناد علی^{کو} حروف ابجد کی تعداد میں ورد کرے اور اپنے کام کا مکمل تصور باندھے۔ اس کا دم کیا ہوا پانی پینا بھی باعث شفاء ہے اور ہر جسمانی تکلیف سے نجات کا حل ہے۔

تسخیر مخلوق

تسخیر مخلوق کے لئے روزانہ بعد نماز فجر ناد علی^{کو} اپنے سامنے پانی رکھ کر حروف ابجد کی تعداد میں پڑھ کر دم کرے اور اس پانی کو اپنے منہ پر ملنے کے بعد باقی پانی پی لیا کرے۔ مخلوق جائز تنسخہ میں ہوگی۔

تسخیر قلب

تسخیر حب اور اپنے میاں کو اپنے جائز قابوں میں رکھنے کے لئے یعنی وہ اپنی عورت

کے علاوہ کسی دوسرا گورت کو نہ دیکھے اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق قائم کرے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے نادِ علیٰ کو حروف ابجد کی تعداد میں ان اشیاء پر دم کرے جس سے کوئی بھی میٹھی شے پک سکے۔ بعد دم کرنے کے ان اشیاء سے لذت والی کوئی بھی میٹھی شے پکائے اور اپنے میاں کو کھلانے۔

اس کے کھانے سے میاں غیر عوروں کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور صرف اپنی بیوی بچوں میں مگن رہے گا، انشاء اللہ۔ اس کے علاوہ ہر مقصد میں کامیابی اور مشکلات کے حل کے لئے نادِ علیٰ کو حروف ابجد کی تعداد میں ورد کرے۔

فراغی رزق و کاروبار

اگر کسی کی دکان زیادہ نہ چلتی ہو یا کسی بعمل کے زیر سایہ ہو تو نادِ علیٰ کو بدھ والے دن بوقت سورج طلوع کے منی کے کورے چمکرے پر کالی روشنائی سے لکھے اور اس کے نیچے اپنا مختصر سامنہ بھی لکھے اور اسے منی کے گھرے میں ڈال دے۔ پھر اپنے تمام گاہوں کو اس میں سے پانی نکال کر پلائے۔ اگر شربت یا اس سے متعلقہ کوئی میٹھی شے بھی پانی ہو تو اس میں اس پانی کو ملا کر دیا کرے۔ اللہ کے حکم سے اس نورانی کلام و عمل کی بدولت جو گاہک بیہاں آئیں گے وہ دوبارہ پھر ان کی دکان سے اشیاء خریدنے کا قصد کریں گے۔

لیکن اس کے ساتھ یہ عمل بھی کرنا ہو گا کہ نادِ علیٰ کو اس کے اگلے دن یعنی جمعرات کے روز بوقت سورج طلوع کے سفید کاغذ پر رعفران سے لکھے اور اسے اپنی دکان کے سامنے لگادے جہاں تمام گاہوں کی نظر پڑے۔ پھر اکیس دنوں تک نادِ علیٰ کو حروف ابجد کی تعداد میں بعد نماز عشاء پڑھے اور اپنے مقصد کی اللہ سے دعا کرے۔ اگر اتنا پڑھنا ممکن نہ ہو تو اپنے نام کے محمل کبیر کی تعداد میں اسے پڑھے اللہ کے حکم سے کاروبار زیادہ چلے گا اور اس میں ترقی کے زیادہ آثار ہوں گے۔ انشاء اللہ۔



ہر نقصان سے بچنا

اگر کسی کا دنیاوی معاملات میں ہر مرتبہ نقصان در نقصان ہوتا ہو اور اس کی کوئی صحیح وجہ بھی سامنے نہ آ رہی ہو یا کوئی دشمن یا حاسد اپنے بد اعمال سے نقصان و پریشانی میں ہر وقت جتلا رکھتا ہو تو نادِ علیؑ کو تمن بار زعفران سے نوچندی جمعرات کے روز بعد نماز عشاء سفید کاغذ پر لکھتے۔

ایک کو اپنے گھر یا کار و باری مقام پر چوکھت کے اوپر لگائے۔
دوسرے کو اپنے گلے میں باندھے۔

اور تیسرا کو مشی کے گھڑے میں ڈال کر احتیاط سے اپنے گھر یا کار و باری مقام کے درود یوار پر چھینٹے مارے۔

اللہ کے حکم سے انسانی یا غیر انسانی مخلوق کے زور پر کیا ہوا نقصان ہمیشہ کے لئے باطل ہوگا۔ پھر نادِ علیؑ کو اپنے گھر یا کار و باری مقام پر سوالا کھکی تقداو میں پڑھوائے اور کسی مشینی شے کو غریبیوں میں تقسیم کرے۔ نقصانات، جادو، ثونے، آسیب و سحر ہمیشہ کے لئے اس گھر کی جان چھوڑ دیں گے۔

پریشانی سے نجات

اگر کوئی بچہ یا بڑا یا ہی پریشان رہتا ہو اور اسے حادثات پیش آتے ہوں تو نادِ علیؑ کو اسی کے صاف کپڑے پر کامی روشنائی سے لکھ کر اس کے گلے میں باندھے اور سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کا پانی پلاۓ اللہ تعالیٰ ہر ضرر رسان شے سے محفوظ فرمائے گا۔

نظر بد کا خاتمه

اگر کوئی بد نظری کا شکار رہتا ہو تو نادِ علیؑ کو نوچندی اتوار کو عصر اور مغرب کے درمیان سفید کاغذ پر زعفران سے لکھے اور میغض کے گلے میں پاک کا لے چڑے میں

محفوظ کرو اکر باندھے۔

اگر گائے بھینسوں کو نظر پڑ ہو تو ناد علی^۱ پر کالی سیاہی سے سفید کاغذ پر لکھے اور شیشے کے فریم میں جانوروں کے رہنے والی جگہ پر درمیان میں لٹکا دے۔ بنظری کا مکمل خاتمہ ہو گا۔

ناجاڑن ضد

اگر کوئی بچہ یا بڑا ہر کام میں ناجاڑن بعثت ہو جاتا ہو اور کسی کی بھی بحی بات کا اس پر اثر نہ ہوتا ہو تو اس نقش کو دو عدد سفید کاغذ پر زعفران سے لکھے اور ایک کو متعلقہ بچے یا بڑے کے گلے میں باندھے اور دوسرا کو کسی مشینی چیز میں ڈال کر پلاٹئے۔

بیماری سے نجات

ناد علی^۲ کو ہر قسم کی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایکبار لکھ کر مریض کے گلے میں پہنائے اور دوسری بار جتنی کے پیالے پر کالی سیاہی سے لکھ کر چوبیں گھنٹے اسی میں سے پانی پلایا جائے۔ اللہ کے حکم سے مریض کی سو بیماریوں کا خاتمہ ہو گا گلے میں پہننے والے نقش کے نیچے مختصر سامقصدد بھی ضرور لکھا جائے۔

حافظت حمل

اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس پر کوئی جادو یا بد عمل کرتا ہو جس سے اس کی اور بچے کی جان خطرے میں ہو تو ناد علی^۳ کو لکھ کر پانی میں ڈال کر پلایا جائے یا حمل کے تین ماہ گزرنے کے بعد ایک بار لکھ کر گلے میں پہنایا جائے اور دوسری بار لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے۔

عمل کثیر الفوائد

ہر کام میں ناد علی^۴ کو استعمال کرنے کے لئے زعفران کا استعمال ضرور کرنا

ہوگا۔ اگر نادِ علیٰ کو دکان یا کاروباری مقام پر لگایا جائے تو کاروبار فراخ ہوگا اور گاہک زیادہ آئیں گے۔

اگر بیمار کے گلے میں پہنایا جائے تو بیمار اسی وقت بالکل ٹھیک ہوگا۔

اگر نادِ علیٰ کو سواری یا سوار اپنے پاس رکھتے تو اسے کسی بھی حادثے کا سامنا نہیں

ہوگا۔

اگر نادِ علیٰ کو اپنے گھر میں سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر چوکھت کے اوپر لگایا

جائے تو گھر ہر قسم کی آفات و بیلیات سے محفوظ ہوگا۔

دکان میں نادِ علیٰ کو روپے رکھنے والی جگہ پر رکھا جائے تو اس کے روپے کبھی

چوری نہیں ہوں گے اور ان میں برکت ہوگی۔

ہر قسم کے جادوؤں نے آسیب و حر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رہنے کے لئے نادِ علیٰ

کو اپنے گلے میں پہننا چاہیے۔

خاتمه امراض

اگر کوئی فرد بہت زیادہ بیمار ہو یا وہ کسی بیماری میں بستلا ہو جو لا علاج بن گئی ہو تو نادِ علیٰ کو روزانہ دن کے تین حصوں میں تازہ زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور گلاب کے عرق میں بھگو دے دوسرا نقش استعمال کرنے سے پہلے کا پانی اپنے اور نادِ علیٰ کو بھی نگل جائے۔ اسی طرح تین نقوش کو روزات پانی میں ڈال کر استعمال کرے اور نادِ علیٰ کو بھی نگل جایا کرے۔ اس عمل کو سات دن کرنے کے بعد آٹھویں روز نادِ علیٰ کو سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر مریض اپنے گلے میں باندھے۔ پھر کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے۔

اللہ کے حکم سے جس بیماری میں بھی بستلا ہوگا اس کا روحاںی طور پر علاج ہوگا اور مریض کی بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ اس عمل کو ایسی خواتین بھی کر سکتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو یا حمل قائم ہوتا ہو لیکن بعد ولادت کے پچھے زندہ نہ پچتا ہو اللہ کے حکم سے ماں اور بچہ دونوں صحیح سلامت رہیں گے۔

امراض قلب

اگر کسی کے دل کے والوں بند ہو جائیں یا دل سے متعلق کوئی بھی بیماری ہو تو ناد علی گوز عفران سے چینی کی پلیٹ پر لکھے اور اسے گلاب کے عرق سے دھو کر پی جائے پھر ناد علی گوایک سوکی تعداد میں پڑھ کر اپنی انگلی پر لگے شہد پردم کرے اور کھائے۔ پھر ناد علی گو دوبارہ زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اسے اپنے دل کے مقام پر باندھئے۔

رعشہ کا علاج

بلغم اور رعشہ کے مکمل خاتمے کے لئے ناد علی گوز عفران سے لکھ کر اپنے گھٹے میں باندھئے اور ناد علی گونمک پردم کر کے صبح نہار منہ ایک چلکی کھائے۔

درستگی ہاضمہ

ہاضمے سے متعلق مرض کے خاتمے کے لئے ناد علی گومٹی کی ہاتھی کے اندر لکھے اور اس میں جو بھی کھانے والی شے ہو وہ پکائے اور صرف مریض کھائے دوسرے کو سفید کاغذ پر زعفران سے لکھے اور اسے پانی میں ڈال کر اس کا پانی پئے۔ پھر تمیرے کو مریض گلے میں بیاڑو پر باندھئے۔ اللہ کے حکم سے ہاضمے سے متعلق تمام امراض کا خاتمہ ہو گا۔ آئر کوئی پیٹ یا گیس کے امراض میں بجا ہو تو وہ بھی اس عمل کی بدولت شفا کے کامل حاصل کر سکتا ہے۔ انشاء اللہ۔

غلبہ بر دشمن

اپنے دشمنوں پر غلبہ اور ان پر فتح حاصل کرنے کے لئے ناد علی گو دریا یا نہر کنارے پر جا کر زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اسے اپنے سیدھے بازو پر باندھئے اور اپنے تمام دشمنان و حاسدوں کے نام معوذ الدہ نقش کے پیچے لکھئے۔

تسبیح مخلوقات

اگر کوئی فرد یہ چاہتا ہو کہ دنیا کا ہر انسان اس کی عزت و احترام کرے تو ناد علیٰ کو نوچندی جمادات کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور ایک عدد پتھر مرجان کے نیچے کسی چکنے والی شے سے چپکا کر چاندی کی انگوٹھی میں محفوظ کرو اکر اسے اپنے سیدھے ہاتھ والی کسی بھی انگلی میں پینے۔ اللہ کے حکم سے جو کوئی بھی اس کو دیکھے، اس کی عزت کرے گا۔

تسبیح افسران و حکام

اگر کوئی ملازم پیش فردو اور اس کے افسران اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں تو ناد علیٰ کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اس کے نیچے اپنے افسران کا نام مع والدہ لکھ کر اسے اپنے سیدھے بازو پر پاندھ لے۔

حصول برکات

دنیاوی کاموں میں فتح اور اس میں برکت حاصل کرنے کے لئے ناد علیٰ کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اسے اپنے سیدھے بازو پر پاندھ۔

اگر برکت گھر یا کاروباری مقام پر کرنے کا ارادہ ہو تو ناد علیٰ کو گھر یا کاروباری مقام پر زعفران سے لکھ کر چوکھت کے اوپر لگائے۔ اس عمل کی بدولت گھر یا کاروباری مقام پر اللہ کی رحمت کے ساتھ برکت بھی ہوگی اور گھر ہر مصیبت اور آفت سے محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ

سلوک و محبت

گھر میں ہر طرح کا سکون اور آپس میں محبت قائم کرنے کے لئے ناد علیٰ کو لکھ کر پانی میں گھول لے اور ہر کھانے پینے والی شے میں ملا کر گھر کے تمام افراد کو کھلانے اور پلانے گھر میں رہنے والے تمام افراد آپس میں اتفاق اور سلوک سے رہیں گے۔

بد تیز اولاد کا علاج

اگر کسی کی اولاد اپنے والدین سے بد تیزی کرتی ہو اور ان سے ناجائز خواہشات کی سمجھیں چاہتی ہو تو نادِ علیؑ کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھئے اور اسے کسی بھی میٹھی شے میں ملا کر پلا پایا جائے اور جتنے بھی بچے ہوں ان کے گلے میں زعفران سے لکھ کر پہنایا جائے۔ اللہ کے حکم سے بچے اپنی ناجائز خواہشات کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنے والدین کی عزت کریں گے۔

ورد کان و ناف

نادِ علیؑ کو زعفران سے لکھ کر زیتون کے تیل میں ڈال دے اور اس تیل کے قطرے مریض کے کان میں ڈالے اور اگر ناف ہو تو اس تیل کی ماش پیٹ پر کرے۔ اللہ کے حکم سے کان اور ناف کے جملہ امراض میں شفاء حاصل ہوگی۔

در در و شقیقہ

اگر کوئی سر درد یا در در و شقیقہ میں بچلا ہو تو نادِ علیؑ کو کالی روٹھائی سے چینی کی پیٹ پر لکھئے اور اس میں زیتون کا تیل ڈال دے۔ دوسرے نقش کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھئے اور اسے اپنے گلے یا بازو پر باندھئے۔ پھر اس تیل کی ماش اپنے سر پر روزانہ صبح نہار منہ کیا کرے۔

اگر کوئی واضح فرق محسوس نہ ہو تو ایک عدد نقش لکھ کر اسے پانی میں ڈال کر اس کا پانی پئے۔ اللہ کے حکم سے سر درد اور در در و شقیقہ کا جل سے خاتمہ ہو گا۔

ٹی بی اور دیگر امراض

ٹی بی اور مبک قسم کے تمام امراض کے خاتمے کے لئے نادِ علیؑ کو لکھ کر گلے میں باندھا جائے اور دوسرے نقش کو گلاب کے عرق میں ڈال کر پیا جائے۔

ہیضہ کا علاج

اگر کسی کو ہیضے کا عارضہ لاحق ہو جائے اور کسی بھی دو سے علاج نہ ہو رہا ہو تو نادر علیؑ کو بوقت صبح سورج طلوع کے زعفران سے سفید کاغذ پر لکھئے اور اسے اسی وقت گلاب کے عرق کی بوتل میں ڈال دے اور اس عرق کو صبح نہار من ضرور استعمال کرنے کے بعد دن کے کئی حصوں میں اس کا استعمال کرے اور ایک عدد نقش کو اپنے گلے میں باندھئے اللہ کے حکم سے بینے کا خاتمہ ہو گا۔

بواسیر خونی و بادی

نادر علیؑ کو زعفران سے مغرب وعشاء کے درمیان سفید کاغذ پر لکھا جائے اور اسے گلے میں باندھئے اور دوسرے نقش کو بالترتیب اگلے دن لکھ کر اسے پانی میں ڈال کر اس کا پانی پئے۔ اللہ نے چاہا تو بواسیر کا جزو سے خاتمہ ہو گا اور آئندہ کے لئے بھی اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ۔

درد تلی و جسمانی درد

نادر علیؑ کو کسی بزرگ یا شہید کے مزار پر جا کر سفید کاغذ پر زعفران سے لکھئے اور اسے سرسوں کے کتیل میں ڈال کر اس تیل کی ماش ہفتے میں ایک دن اپنے پورے جسم پر کرے۔ کم از کم تین گھنٹے اس تیل کو اپنے جسم پر لگا رہنے والے پھر غسل کرے۔ ایک ہفتہ اس عمل کو کر لینے کے بعد پھر نادر علیؑ کو زعفران سے لکھئے اور اسے اپنی بیماریوں کے نام اور ان کے خاتمے کا مختصر سامقصدد لکھ کر گلے میں باندھئے۔

خارش و پھنسیوں کا علاج

نادر علیؑ کو چینی کی پلیٹ پر کالی سیاہی سے لکھئے اور اس میں زیتون کا تیل ڈال کر متاثرہ حصے پر اس تیل کی ماش کرے اور نادر علیؑ کو لکھ کر گلے میں باندھئے۔

اولاد پاتا

اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو دونوں میاں یہ ہی روز جھرات اٹھے کو ابال کر اس کا چھلکا اتار کے اس پر زعفران سے نادِ علیؑ کو تحریر کریں اور آدھا آدھا اٹھا دونوں میاں یہ ہی کھائیں پھر ہم بستری کریں۔
اس عمل کو ہفتے میں ایک دن ضرور کیا کریں اور نادِ علیؑ کو لکھ کر پانی میں ڈال کر دونوں اس کا پانی استعمال کریں۔ اللہ ان کو ضرور اولاد بخشنے گا۔

بانجھ پن

اگر کوئی عورت حمل قائم کرنے کے لائق نہ رہی ہو تو اس عمل کو کرے۔ اللہ ضرور اس عورت پر رحم فرمائے گا۔
نادِ علیؑ کو دوبار زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے۔ ایک کو اپنے گلے میں باندھے اور دوسرے کو دو دو دھنے میں ڈال کر صبح نہار منہ اس دو دھنے کو پیا کرے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اسے اولاد ضرور بخشنے گا۔

تعلیمی ترقی

اگر کوئی بچہ یا بڑا کندہ ہن ہو اور جو کچھ بھی یاد کرتا ہوا سے بھول جاتا ہو تو نادِ علیؑ کو زعفران سے دو کاغذوں پر لکھے۔ ایک کو کاغذ اپنے گلے میں باندھے اور دوسرے کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی استعمال کرے۔ اللہ کے حکم سے اس کا ذہن تیز ہو گا۔

امتحان میں کامیابی

اگر کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا چاہتا ہو تو نادِ علیؑ کو بوقت صحیح سورج طلوع کے سورج کے سامنے بیٹھ کر زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اسے باریک ٹکلیں میں موز کر اسے اپنے لکھنے والے قلم کے اندر رکھ لے اور اپنے پاس ایسا قلم بھی رکھے جو لکھنا نہ ہو پھر

اس سے امتحانی پر بچے پر نادِ علیٰ کو لکھئے اور جس کے اندر نادِ علیٰ کو رکھا ہو اس کے ساتھ پرچہ تحریر کرے۔ اللہ کے حکم سے امتحان میں پہنچی امداد حاصل ہوگی۔ ایک عدد قلش کو اپنے سیدھے بازو پر بھی باندھے۔ پڑھائی میں ذہن تجزیہ کئے کے لئے نادِ علیٰ کو گلاب کے عرق میں ڈال کر اس عرق کو پینا نہایت فائدہ مند ہے۔

لکنت زبان

اگر کسی کی زبان بولتے ہوئے لکنت کا شکار ہوتی ہو تو نادِ علیٰ کو لکھ کر اپنے گلے میں باندھے اور پانی میں ڈال کر اس کا پانی استعمال کرے۔ اللہ کے حکم سے اس کی زبان صحیح ہوگی اور وہ الفاظ کو صحیح بیان کرے گا۔

سوکھا کا خاتمه

اس عمل کی بدولت اگر بچہ یا بڑا سوکھا پن کا شکار ہوا ہو تو اللہ کے حکم سے ایک ہی مرتبہ کے علاج سے بالکل صحت مند اور تدرست ہو گا۔

کوئی بھی مریض ہو تو اس کو یا اس کے گھر والوں کو حکم دیا جائے کہ لٹھے کا سات گز کپڑا سفید رنگ کا لیا جائے اور عمل شروع کرنے سے پہلے مریض کو تازہ غسل کرو اکر اس لٹھے سے اس کا سارا جسم ڈھانپا جائے اور خود صاحب عمل نادِ علیٰ پر ڈھتا جائے۔ اگر اس کو مریض کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھ کر دم کیا جائے تو بہتر ہے ورنہ اتنا پڑھے جس سے مریض کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

بعد دم کرنے کے اس کپڑے کو اتار کر مریض کو غسل کروایا جائے اور جس پانی سے غسل کروایا جائے وہ سات نکوں کا پانی ہو لیکن مختلف مقامات سے سات عینہ عینہ جگہوں سے پانی لایا جائے اور اس پانی میں نادِ علیٰ کو لکھ کر ڈال دیا جائے لیکن اس بات کی ضرور احتیاط کی جائے کہ اس پانی کی بے ادبی کی صورت میں نہ ہو اور جس پانی سے غسل دیا جائے اسے پودوں میں ڈال دیا جائے۔

بھر ایک عدد ناد علی گو نقش مریض کے گلے میں زعفران سے لکھ کر پہنایا جائے اللہ کے حکم سے سارا سوکھا پن اس پودے اور اس کپڑے میں چلا جائے گا۔ کپڑے کو چلنے پانی میں بھایا جائے۔

سان و بانجھ پن کا علاج

اگر کسی عورت کا حمل بار بار ساقط ہو جاتا ہو یا اسے کسی نے سان کھلانے ہوں یا اس پر کوئی چادو کا دار کرتا ہو یا بعد پیدائش کے بچپن فوت ہو جاتا ہو یا بعد زیبہ بد اعمال عورت بانجھ پن کا شکار ہو گئی ہو یا پیدائش میں کوئی بھی رکاوٹ ہمیشہ آڑے آتی ہو تو اس عمل کو اس طرح کیا جائے کہ عورت کو تازہ غسل کرو اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر پانچ اگر بتیاں جلا کر ناد علی پانچ سو پانچ مرتبہ پڑھ کر اس عورت پر دم کرے اور چلتے دریا کے درمیان سے اتنا پانی لائے جس سے اس عورت کو با آسانی غسل دیا جاسکے۔

اس پانی کو دم کرنے سے پہلے آگ پر رکھ کر گرم کیا جائے اور جب اتارنے کا ارادہ ہو تو ناد علی گو زعفران سے لکھ کر اس پانی میں ڈال کر پانچ منٹ کے بعد باہر نکالے اور اسے علیحدہ کسی جگہ پر رکھے اور اس پانی کی بے ادبی کئے بغیر غسل دے اور جس نقش کو پانی میں ڈالا تھا وہ عورت کو کھلا دے۔ پھر اس غسل شدہ پانی کو پوپوں یا کسی درخت کی جڑ میں ڈال دے اور ایک عدد نقش کو اس عورت کے گلے میں باندھ دے اور ایک عدد نقش کو دوبارہ زعفران سے لکھ کر اسے گلاب کے عرق کی بوگل میں ڈال دے اور صبح نہار من اس عرق کو پیا جائے۔ اللہ کے حکم سے سب امراض کا خاتمہ ہو گا۔

جنت سے نجات

اگر کسی کے گھر میں جنتا یا کوئی غیر انسانی تخلوق رہتی ہو اور کسی بھی طریقے سے جان نہ چھوڑتی ہو تو اس عمل کو کرے۔ بفضل خدا جنتا اس جگہ کو چھوڑ کر دہاں سے ٹپ جائیں گے۔ روزانہ اپنے گھر میں حمل و گول پر ایک سو کی تعداد میں ناد علی پڑھ کر دم کرے اور انہیں کوکلوں پر رکھ کر اس کی دھونی اپنے گھر میں دے اور ناد علی گو جتنے گھر کے

- کرے ہوں ان سب کی چوکھت کے اوپر لگانے کے حساب سے اتنی تعداد میں زعفران سے سفید کاغذ پر خوشخط لکھنے اور انہیں شیشے کے فریم میں محفوظ کرو اکر چوکھوں کے اوپر لگانے۔

اللہ کے حکم سے جنات یا کوئی بھی غیر انسانی مخلوق اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی کسی بھی گھر کے فرد کو پریشان کرے گی۔ اگر اناد علی گوروزان اپنے گھر کے کلوں میں سات سات مرتبہ پڑھ کر دم بھی کیا جائے تو اثرات دوہرے ہوں گے۔

جسمانی و روحانی امراض

اگر کوئی زبردست قسم کی بیماری کی پلیٹ میں آیا ہو یا اس پر کوئی مسلسل جادو یا بد اعمال کرواتا ہو جس سے جسمانی بیماری جان نجپھوڑتی ہو تو صنوبر کی چھال پر ایک ہی جبلے میں ناد علی سات ہزار مرتبہ دم کرے اور اسے پاک و صاف مقام پر آگ پر جلا کر خاکستر کرے اور اس را کھکھل کر لے۔ پھر اس را کھل کر ڈال کر سغوف کی شکل دے اور اسے زعفران کی روشنائی میں ڈال لے۔

اب صح نہار من ناد علی کو چینی کی پلیٹ پر اس زعفران سے لکھنے اور اپنے مزان کے مطابق شربت کے ساتھ چینی کی پلیٹ والے نقش کو دھو کر استعمال کرے۔

اس عمل کو اگر دن کے تین حصوں میں کیا جائے تو اللہ رب العزت انکی تمام بیماریوں سے نجات دے گا جن کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔

ناد علی کو ایک بڑے سے سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر اپنے سامنے ایسی جگہ لگائے جہاں ہر وقت نظر پڑتی ہو اور ایک نقش ناد علی کا اپنے گلے یا بازو پر باندھے۔ پہلی کالیف کا خاتمه ہوتے ہوئے آئندہ کے لئے ہر قسم کی جسمانی و روحانی بیماری سے محفوظ ہو گا۔

ناد علی کو کسی بھی جسمانی یا روحانی بیماری میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو پانی میں ڈال کر پینے سے بھی روحانی شفاء حاصل ہوتی ہے۔

جادوی اثرات سے حفاظت

اگر کوئی بھی فرد یا جادو یا بد اعمال سے مغلوب ہو جاتا ہو اور اسے کافی نصان پہنچتا ہو جس سے زندگی میں ایک بیل بھی سانس لیتا مشکل ہو گیا ہو تو اللہ کی کامل رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو ایسے کرے کہ روزانہ عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرے۔ وہ پڑھنے کے بعد ناد علیہ سات سو سات مرتبہ پڑھ کر بعد میں دو قل پڑھے اور بجد میں اللہ سے دعا مانگے۔

بعد اس عمل کے جو اگلی نو چندی جمعرات آئے اس رات عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنے سے پہلے ناد علیہ کو زعفران سے لکھئے اور اس کے نیچے اپنا نام مع والدہ اور اپنا مختصر سامعہ لکھ کر اسے اپنے گلے یا بازو پر باندھے۔ اللہ اس کے دشمنوں اور حاسدوں کا انجام خود اس کو اس کی آنکھوں سے دکھا دے گا۔

اس عمل کو کم اک تالیس دن مسجد میں کرنے کے بعد اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کو پہلے پہل اس عمل کو کرنے میں کوئی وقت پیش آئے لیکن جیسے جیسے اس پاک عمل کا آغاز کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کا حامی و ناصر ہو گا۔

ہستیر یا کا علاج

یہ ایسا مرض ہوتا ہے جس سے عورت کو دورے پڑتے ہیں اور اسکی عجیب حالت ہو جاتی ہے کہ اس کا زندہ رہنا محال ہو جاتا ہے۔

اس مرض کا بہشت کے لئے خاتمہ کرنے کے لئے روزانہ صبح نہار منہ ناد علیہ کو چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر صندل کے شربت کے ساتھ گھول کر پلایا جائے اور ایک عدد نقش زعفران سے لکھ کر گلے یا اٹے بازو پر باندھا جائے اگر کوئی خاص افاق نہ ہوا اسی نقش کو کالم سیاہی سے لکھ کر نیچے نام مریض مع والدہ لکھ کر اسے منی کی ہائٹی میں ڈال دے اور اس میں دریا سے صاف پانی بھر کر لائے اور اس ہائٹی کا پانی استعمال کرے مرض کا جزو سے خاتمہ ہو گا۔

اس عمل کو شروع کرنے کے بعد پہل کے سوھے پتے کافی مقدار میں لائے جائیں اور روزانہ سات چتوں پر نادِ علیٰ نسٹر بار پڑھ کر ان چتوں پر دم کرے اور ایک سفید رنگ کی چادر اپنے پورے جسم پر لپیٹ کر اور اپنے پہلے کپڑے اتار کر ان چتوں کو کوئی دہکا کر رکھ کر اس کی دھونی اپنے پورے جسم کو دے اور پھر گلے یا بازو پر باندھنے والے نقش کو باندھے۔ اللہ کے حکم سے اس مرض کا جذبے خاتمہ ہوگا۔ عمل کی میعاد کم از کم گیارہ دن ہے۔

استقر اِرِ حمل

اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت نیک نیت رکھنے والوں کو ضرور اس نعمت سے نوازتا ہے۔

سب سے پہلے عورت اپنے چیض و نفاس والے دنوں سے پاک ہو اور نادِ علیٰ ایک سو ایک مرتبہ دن کے کسی بھی ایک حصہ میں پڑھے اور پانی پر دم کر کے آدھا خود پتے اور آدھا اپنے شوہر کو پلاٹے یا اگر شوہر اس عمل کو کرے تو آدھا پانی اپنی عورت کو پلاٹے اس عمل کو سات دنوں تک کیا جائے۔ پھر روزانہ نادِ علیٰ کوتاژہ چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھا جائے اور اسے مصری کے شربت کے ساتھ دھو کر پتے۔

نوجہندی جھرات والے دن نادِ علیٰ کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اس دونوں میاں یوں اپنے گلے میں باندھیں اور اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ جو نقش میاں اپنے گلے میں باندھے اس کے نیچے اپنی یوں کا نام مع والدہ لکھے اور جو نقش یوں ہے اس کے نیچے اپنے شوہر کا نام مع والدہ لکھے۔ اللہ کے حکم سے حمل قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش بر سائے گا۔

مال کی حفاظت

اگر کسی کے کاروباری مقام پر یا گھر میں اشیاء کی چوری ہوتی ہو اور کوئی بھی اس بات کا اقرار نہ کرتا ہو تو ایک مکڑا سبز رنگی کپڑا لٹکرا کر اسے لوبان کی دھونی دے اور خود اس

پر ناد علیؑ ایک ہزار بار پڑھ کر دم کرے اور جب تک پڑھنے کی تعداد ختم نہ ہو تب تک لوبان کی دھونی ختم نہ ہوئی چاہئے۔ پھر اس کپڑے پر کامل روشنائی سے ناد علیؑ نکھے اور اسے اپنے کاروباری مقام یا گھر پر گھر کی چوکھت کے اوپر لگاؤ۔

اللہ کے فضل سے چوری طاہری ہوتی بھی چور گھر کی کسی بھی شے کو چاخیں سکے گا اور اگر کوئی عالیٰ اپنی کلام کے ذریعے کچھ چرانے کی کوشش کرے گا تو بھی ناکام رہے گا۔ اس کے اثرات خصوصاً چور کو باطنی طور پر انہا بنا دیں گے جس سے وہ کسی بھی شے کو دیکھنیں سکے گا۔

تغیر الخلاق

دنیا میں انسانوں و جانوروں کو اپنے زیر کرنے اور ان سے جائز کاموں میں امداد حاصل کرنے کے لئے روزانہ اکتالیں دنوں تک ناد علیؑ ایک ہزار بار بعد غماز عشاء پڑھے اور اسے سرمد کی ایک ڈلی پر دم کرے۔ اس عمل کو اکتالیں دنوں تک دم کرتا جائے اور بعد اس عمل کے اس ڈلی کو کھرل میں ڈال کر سفوف کی خلیل بنائے۔

بوقت ضرورت اس کی ایک ایک سلاٹی اپنی آنکھوں میں لگا کر جس کسی کے بھی رو برو جائے گا وہ عزت سے پیش آئے گا لیکن اس کے ساتھ نوچندی بدھ والے دن ناد علیؑ کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے یا بازو پر باندھے۔ حقیقت میں وہ تمام اس کے مخز ہوں گے۔

اس عمل کو ایسے افراد بھی کر سکتے ہیں جن کے حکام یا افسران اپنے ملازمین سے بدتریزی کرتے ہوں اور ان کی جائز ترقی میں بھی رکاوٹیں ڈالتے ہوں اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرتے ہوں۔

ایسے افراد بھی جو اپنی شیطانی عادات کو ترک نہ کرتے ہوں، ان کو ناد علیؑ کو زعفران سے لکھ کر دھو کر پلایا جائے اور ایک عدد نقش گلے میں باندھا جائے۔ تغیر کا زبردست عمل ہے۔

جاائز کام نکلوانا

اگر کسی کو کسی سے کوئی جائز کام ہو اور انکار کی صورت بن رہی ہو یا انکار ہو چکا ہو تو اس عمل کو کرے۔ اللہ کے حکم سے جس کسی نے بھی انکار کیا ہو گا وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ پھر اس کام کو کرنے کی حاجی بھرے گا۔

ایک عدد سرخ لیٹھی رومال لے کر صندل جلا کر اس کی دھونی اس رومال کو دے اور جب دھونی دینے والا عمل شروع کرے تو نادِ علیؑ ایک ہزار تن سورت ہے پڑھے۔ جب تعداد ختم ہو جائے تو اس پر نادِ علیؑ کو زعفران سے لکھئے اور اس کے نیچے اپنا مختصر سماقہ بھی لکھئے اور اسے اپنے پاس رکھ کر جس سے کام ہواں کے پاس جائے اللہ کے حکم سے وہ بھی بھی انکار نہیں کر سکے گا دیر سویر چاہے ہی ہو جائے لیکن انکار نہیں ہو گا۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس عمل کو اس آدمی کے پاس جانے سے پہلے ہی کیا جائے تاکہ شک کی کوئی وجہ نہ رہے۔

عمل حب زوجین

مندرجہ بالا عمل کو خوب کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے مثلاً اگر دو میاں یہوی ہوں اور ان کی آپس میں صلح و اتفاق نہ ہوتا ہو تو بھی اسی عمل کو کیا جائے اور اس رومال کو دونوں میں سے کوئی بھی اپنے شوہر یا یہوی کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھ لے۔

عمل زیادتی دودھ

اس عمل کے ذریعے کسی کا بھی بندھا ہوا دودھ کھولا جاسکتا ہے اور گائے بھیں کے دودھ میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

اگر کسی عورت کا دودھ خلک ہو گیا ہو یا کسی نے بد اعمالی کے ذریعے دودھ باندھ دیا ہو یا دوسری کوئی بھی وجہ ہو تو نادِ علیؑ کو صح کے وقت بعد تماز فخر بعد دعا کے مصلے پر بیٹھ کر زعفران سے چینی کی پلیٹ پر لکھئے اور بکری کے پاؤ بھر دودھ میں اس پلیٹ کو رکھ دے

اور دودھ اس عورت کو پلایا جائے جس کا دودھ خلک ہو گیا ہو۔ دن میں اگر زیادہ مرتبہ بھی اس عمل کو کیا جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ کے حکم سے اس عورت کا دودھ کھل جائے گا اور پچھے خوب سیر ہو کر دودھ پئے گا۔

سات دن بعد اس عمل کو کرنے کے آٹھویں روز پھر بعد نماز فجر مصلے پر بینہ کرنا و علی گو سفید کاغذ پر زعفران سے لکھئے اور یعنی اس عورت کا نام مع والدہ لکھ کر اس کے لگلے میں پہنائے۔ پچھو ماں دونوں ہی ہر قسم کی قباحت اور بد اعمال سے محظوظ رہیں گے۔ اگر جانور دودھ کم دیتے ہوں تو ایک عدد پاک مٹی کا ایسا ٹھیکر لایا جائے جس کو پانی نہ لگا ہو۔ پھر اس ٹھیکرے پر نادلی گو کالی سیاہی سے لکھئے اور اسے جانوروں کے پینے والے پانی میں اسی احتیاط سے رکھے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا۔

اثراتِ بد سے حفاظت

اگر کوئی بھی زندگی میں بد اثرات سے دوچار ہوتا ہو مثلاً جیسے بار بار نظر لگنا، بخہ ہوئے کام کا اچاکنک بگڑ جانا، اچھا بھلا چلتا ہوا کارو بار اچاکنک بند ہو جانا یا دکان و مکان میں خون کے چھینٹے پڑنا وغیرہ ان کا بیک وقت خاتمه اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے نادلی گو ہرن کی کھال کو پاک کر کے اس پر لکھئے اور اس کو عطر سے معطر کرے۔

نوچندی جھرات والے دن بعد نماز فجر اس کو اپنے گلے میں پانچ لے اور ایک ایک اسی طرح کا نقش اپنے کاروباری مقام دکان یا گھر میں چاروں کونوں پر شیشے کے فریم میں کنہ کرو کر لگائے۔ اللہ کے حکم سے زندگی میں محوست اور بد اثرات فوراً زائل ہوں گے۔

کوئی بھی بعلم و قیل یا غیر انسانی مخلوق یا ایسے حاسد افراد قطعی اس فرد کی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اثناء اللہ۔



بد نظری و شمشنی

حاسد و بد نظر رکھنے والے یا جن افراد کو ہر بار ایک ہی انسان کی بد نظر لگتی ہو اس کا نام مع والدہ یا کئی افراد پر ہر طرح سے غلبہ حاصل کرنے کے لئے ناد علی ہو چیز ان تمام افراد کے نام والدہ لکھ کر اسے اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔ دشمن سر گنوں ہوں گے۔

جسمانی امراض کا خاتمہ

اس عمل کو ہر قسم کی جسمانی بیماری کے خاتمے اور شفا یے کاملہ حاصل کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے اور اللہ رب العزت اس پاک عمل نقش کی بدولت ضرور شفاء دیتا ہے۔

اگر کسی کو درد قوچ ہوتا ناد علی ہو روزانہ پانچ دنوں تک چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر صبح نہار منہ گلاب کے عرق سے ادھو کر پئے اور ایک ایسا نقش اپنے گلے میں باندھے۔ اللہ کے حکم سے درد قوچ کا خاتمہ ہو گا۔

درد گردہ کے لئے ناد علی ہو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اسے اپنے گردے کے مقام پر چکنے والی شیپ کے ساتھ لگائے۔

ہول قلب اور دل کے تمام امراض کے لئے ناد علی ہو سات دنوں تک سب کے چکلے پر کالی سیاہی سے لکھے اور اس چکلے کو صبح نہار منہ کھائے اور ناد علی ہو دو عدد زعفران سے لکھ کر ایک کو گلاب کے عرق کی بوتل میں ڈال کر اس عرق کو پئے اور دوسرے کو اپنے دل کے مقام پر باندھے اللہ شفاء دے گا۔

وروناف کے لئے ناد علی ہو سروں کے تیل میں ڈال کر اس تیل کی ماش اپنے پیٹ پر کرے اور روئی کو اسی تیل میں بھجو کر روناف کے مقام پر رکھے۔ اللہ کے حکم سے روناف کا عارضہ ختم ہو گا۔ بعد اس مرض کے خاتمے کے اسی نقش کو بزرگی کپڑے پر کالی سیاہی سے لکھے اور اسے گلے میں باندھے۔

درد پسلی کا علاج

اس عمل کو درد پسلی اور بچوں کے پسلی چلنے کے خاتمے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ کالا ریشمی کپڑا آدھ گز لے کر اس پر ناد علی ہو سنہری روشنائی سے لکھے اور اسے بچے کی کمر پر لپیٹئے اور ناد علی ہو کسی مٹی کے پیالے پر لکھ کر اس پیالے میں گلاب کا عرق ڈال کر منج و شام اسی عرق کو پلایا جائے۔ اللہ کے حکم سے پسلیوں کا عارضہ ختم ہو گا۔

کمر درد کا علاج

اگر کسی کو کمر میں درد رہتا ہو تو بھی اس عمل کو ایسے ہی کیا جائے لیکن اس کے ساتھ اس بات کو ضرور یاد رکھئے کہ کپڑے پر لکھے گئے نقش کی بے اونی کسی بھی صورت میں نہ کی جائے ورنہ اللہ کے عذاب کے ساتھ ساتھ شفاء قطعی نہیں ہو گی۔ حتی الامکان سبی کوشش کی جائے کہ اس کی حفاظت کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کامل صحت سے نوازے۔

درد بدن کا علاج

جم میں مختلف قسم کی دردیں یا مخصوص کسی بھی درد کے خاتمے کے لئے ناد علی ہو بزر ریشمی کپڑے پر سنہری روشنائی سے لکھے اور اسے اپنے بدن کے گرد لپیٹئے اور دوسرا کو گلاب کے عرق کے ساتھ پہنے۔ اگر قشل خانے میں جانے کی حاجت ہو تو اس کپڑے کو اپنے بدن سے علیحدہ کیا جائے اور تازہ و خود کر کے پھر اس کپڑے کو باندھ جائے۔ اللہ کے حکم سے جسمانی پیروں اور اندر ونی بیماریوں کا خاتمه ہو گا۔

جوڑوں کا درد

جوڑوں کے درد کے خاتمے کے لئے ناد علی ہو سروں کے تیل میں ڈال کر اس تیل کی جوڑوں پر ماس کرے۔

بلڈ پریشر و شوگر کا علاج

بلڈ پریشر و شوگر کے خاتمے کے لئے نادِ علیؒ کو سفید چھوٹے سے کافی بلڈ پر زعفران سے لکھے اور اس کے نیچے مختصر سامقہدا اور اپنا نام مع والدہ لکھ کر لہسن کا ایک جوالے کر اس کو کافی اور اس کے اندر نادِ علیؒ کو رکھ کر اسے صبح نہار منہ تکل جائے۔ اس عمل کو سات دنوں تک کر کے خود اس کے اثرات دیکھ لے۔ اگر کوئی افاقت نہ ہو تو لہسن والے عمل کو مسلسل کرتے ہوئے اس کے ساتھ مٹی کے پیالے کے اندر نادِ علیؒ کو کالی سیاہی سے لکھے اور ہر وقت اس کا پانی استعمال کرے۔ اللہ کے حکم سے لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا بیک وقت خاتمه ہو گا۔

ائیمیا کا علاج

اگر کسی کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہو تو وہ نادِ علیؒ کو مٹی کے کورے ٹھیکرے پر کالی سیاہی سے لکھے اور اس ٹھیکرے کو مٹی کی کنالی کے اندر درمیان میں رکھ کر اس کے گرد اپنا نام مع والدہ لکھے اور اسے پانی سے خوب بھردے اور ہر وقت اس میں سے پانی پیا کرے اور اگر ہو سکے تو ایک عدد قلش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں بھی باندھے اللہ کے حکم سے خون کی کمی پوری ہو گی اور اس سے دیگر دوسرے امراض کا بھی خاتمه ہو گا۔ خون سے زہر صاف کرنے اور اسے صحیح کرنے کے لئے اوپر والے عمل کو دو ہر لیا جائے۔ اللہ شفاء دے گا۔

غلبہ بر عدو

اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہو تو نادِ علیؒ عددی شکل میں لکھ کر اس کے نیچے دہن کا نام مع والدہ لکھ کر اسے تابنے کے پتے میں لپیٹ کر آگ کر گرمی دے۔ اللہ اسے حج و جھوٹ بھتی کی صلاحیت کے ساتھ اس پر فتح و غلبہ صاحب عمر کو عطا کرے گا۔

امراض چشم

آنکھوں سے متعلق ہر بیماری کے خاتمے کے لئے ناد علیٰ کو لکھ کر گلاب کے عرق کی بوالی میں ڈال کر اس کے چھینٹے اس عرق کی بے ادبی کئے بغیر آنکھوں میں لگائے اور جو پانی آنکھوں سے لگ کر جمع ہوتا جائے اسے پودوں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے سفید موٹا کالا موٹیا اور اس سے دیگر جتنے بھی امراض ہوں گے ان سب کا خاتمہ یقینی ہے۔

اس کے ساتھ ہی ناد علیٰ کو زعفران سے لکھ کر نیچے اپنا نام مج والدہ لکھ کر اسے اپنے گلے میں باندھے۔ اللہ کے حکم سے آنکھوں کے امراض ختم ہوں گے۔

شیطان سے نجات

اگر کوئی فرزند زندگی میں شیطان کا پیروکار بن گیا ہو اور شیطانی اعمال کرتا ہو جس سے خدا بہت پریشان ہو تو اس عمل کو وہ خود اپنی اصلاح کرنے یا کوئی دوسرا اس کی اصلاح کرنے کی خاطر اس عمل کو کرے اللہ کے حکم سے اس کی اصلاح ہوگی اور شیطان اس سے دور ہو گا اور اس کا دل ان کاموں سے اچاٹ ہو گا جو شیطان کر کے خوش ہوتا ہے۔

عمل یہ ہے کہ جس کی اصلاح کرنی ہو اس کے پسندیدہ چل پر ناد علیٰ دم کرے اور اس کا نام مج والدہ لکھ کر منا دیا کرے۔ کم از کم تین مرتبہ ایسے لکھے اور تین مرتبہ مناۓ اور جب منائے تو تصور اس بات کا رکھ کر جیسے میں نے اس سے یہ عمل چھڑانے کے لئے اس کے نام کو منایا ہے اے اللہ تو بھی اس سے شیطانی عادات کو منا دے۔

کمی نیند

اگر کسی نے بد اعمال کے ذریعے خواب بندی کر دی ہو جس سے نیند ت آتی ہو اور دل بے چین ہو کر ہوا میں اڑتا ہو تو اس بد عمل کی کاث اور بھر پور نیند سونے کے لئے ناد

علیٰ کو چار عدد کی تعداد میں زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے ایک کو اپنی چار پانی کے ساتھ لٹکائے دوسرا کو گلے میں باندھئے۔ تیسرا کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی چھپئے اور چوتھے کو اپنے سامنے لگا کر اسے دیکھئے بد عمل کا خاتمہ ہو گا۔

نزلہ زکام کا علاج

اگر کسی کو بہت پرانا نزلہ زکام ہو جس سے گلے میں کیرا بھی گرتا ہو تو ناد علیٰ کو صبح نہار منہ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اسی وقت گلب کے عرق کے ساتھ دھو کر چھپئے اور اسی عمل کو رات کو بعد نماز عشاء بھی کرے اور ایک عدو نقش ناد علیٰ کو اپنے گلے میں زعفران سے لکھ کر باندھئے۔ اللہ کے حکم سے پرانا نزلہ ختم ہو گا۔

امراض جلد کا علاج

جلد کے امراض مثلاً چہرے پر داؤں کا کثرت سے نکلتا یا دانے نکلنے کے حد پر ان نشانات کا برقرار رہنا یا چہرے پر چیچک کے نشانات کا پایا جانا ان سب کے خاتمے کے لئے ناد علیٰ کو مٹی کے کورے ٹھیکرے پر کالمی سیاہی سے لکھا جائے اور اس پر سرسوں کا تیل ڈالا جائے اور سادہ روئی لے کر جتنا تیل اس روئی پر لگ سکے لگایا جائے اور اسے اپنے چہرے کے متاثرہ حصے پر پل کر آگ پر جلانے اور اس کی دھونی اپنے چہرے کو دے۔ چہرے کے امراض ختم ہوں گے۔

در دیڑہ سے نجات

در دیڑہ سے نجات کے لئے اسی نقش کو عورت کے پینے والے دو پتے پر لکھئے اور اسے اس کے دل کے مقام پر باندھئے یا اگر دل پر نہ باندھ سکے تو اسی کپڑے کو گلب کے عرق کی یوں میں ڈال دے اور اس عرق کو چھپئے۔ اللہ کے حکم سے در دیڑہ سے نجات ہو گی اور پیدائش میں آسانی ہو گی۔

ناد علیٰ کو ایسی سیاہی سے لکھا جائے جس سے پانی میں ڈال کر یہ مٹ نہ جائے

پھر اسی کو بعد پیدا شنبے کے گلے میں باندھے ماں و بچہ دونوں سلامت رہیں گے۔

مقصد میں کامیابی

نادی علیؑ کو جو کوئی بھی زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے اور اس کے نیچے اپنا نام مع والدہ اور اپنا مختصر کوئی بھی مقصد لکھ کر گلے میں پینے گا تو اللہ کے حکم سے اسے دنیاوی معاملات میں کوئی بھی پریشانی یا مصیبت نہیں آئے گی اور اس کے کام غیری امداد کے طور پر ہوں گے۔

اس کے لئے نادی علیؑ کو تو چندی جھرات کو سورج نکلنے کے ایک بھنٹے کے بعد لکھے اور اسے چاندی یا آسکی اور دھمات میں کندہ کرو کر اپنے گلے میں باندھے۔

حاسد و مل سے حفاظت

دشمن و حاسد افراد کے غلط ارادروں سے باز رہنے اور ان پر فتح حاصل کرنے کے لئے اسی نقش کو اوپر والے طریقہ کے مطابق لکھے اور اس کے نیچے دشمن کا نام مع والدہ لکھ کر اسے اپنے الٹے بازو پر باندھے۔ دشمن اپنے برے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔

دشمن کی اصلاح

دشمن کی اصلاح یا ایسے افراد کی اصلاح کرنے کے لئے جو اچانک پیار و محبت سے منہ موڑ چکے ہوں اس نقش کے نیچے ان تمام افراد کے نام مع والدہ لکھ کر ان کے پسندیدہ مشروب میں گھول کر یہ مشروب ان افراد کو پلایا جائے جو اسی کیفیت میں جتاں ہوں۔ اللہ کے حکم سے یہ دوبارہ پیار و محبت قائم کریں گے اور پرانی دشمنی کا خاتمہ ہو گا۔

بواسیر سے نجات

بواسیر سے نجات کے لئے نادی علیؑ کو چاندی کے پترے پر کندہ کروائے اور اسے

گلاب کے عرق میں ڈال کر صح نہار مناس عرق کو پئے۔

استقر ارجمل

اگر کسی عورت کو حمل قائم نہ ہوتا ہو تو نادِ علیٰ کو صح نہار من جھی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھے اور اسے صندل کے شربت کے ساتھ مٹا کر پئے اور سات دن کے بعد نادِ علیٰ کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھ کر اسے بینے کے مقام پر باندھے لیکن اس کی بے ادبی کسی بھی صورت نہ کرے۔

ای گل میں زیادہ اثر پیدا کرنے کے لئے اسی نقش کو گلاب کے عرق کی بوتل میں ڈال کر اسے ڈھکن سے بند کرے اور دن کے تین حصوں میں اس عرق کو پئے۔ اللہ کے حکم سے حمل قائم ہوگا۔

اس عمل کو شروع کرنے کے بعد کم از کم سات دن بہتری نہ کی جائے اور جب سات دن گزر جائیں تو آٹھویں دن بینے کے نقش کو بحفاظت کمیں رکھے اور پھر ہم بہتری کرے۔ بعد فراغت کے تازہ عسل کرے اور نادِ علیٰ کو باندھے۔ اسی طرح جب بھی ہم بہتری کرنی ہو تو نادِ علیٰ کو اتار لیا جائے۔ اللہ کے حکم سے حمل قائم ہوگا۔

نجات بانجھ پن

اگر کوئی عورت بانجھ ہو چکی ہو تو اسی عمل کو کرے اگر کوئی عورت جادو ٹونے آسیب جنات یا سوء بندی کے عمل میں گرفتار ہو چکی ہو جس سے حمل قائم نہ ہوتا ہو تو اسی عمل کو مسلسل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کی بدولت ضرور اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔

اس کے علاوہ تمام خواتین اسی عمل کو اپنے اندر و فی امراض کے خاتمے کے لئے اسی طرح کریں۔ اللہ ان کو ضرور شفاء سے نوازے گا۔ کسی بھی طور سے عمل کرنے کے بعد اپنے بینے والے نقش کو پنج کے گلے میں پہنا گیں۔

سرسام و دیگر امراض

مرض سرسام کے عمل خاتمے کے لئے نادِ علیٰ کو ایک سیاہ مرغ کے خون سے اس صورت میں لکھے جب مریض کوئی مرد ہو اور اگر کوئی مریض عورت ہو تو ایک کالی مرغی کو ذبح کرے اس کے خون سے اس نقش کو لکھے اور اسے نام مریض مع والدہ لکھ کر مریض کے گلے میں باندھئے۔

اگر کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو مریض مرد و عورت دونوں میں سے دونوں کو صرف سفید رنگ کے مرغ کے خون سے لکھ کر اس کے گلے میں پہنائے اور اگر سرسام یا مرگی کے مریض کو دورے پڑتے ہوں تو نادِ علیٰ کو دریا کے پانی سے بوٹی بھر کر اس بوٹی میں ڈال کر رکھے اور جب دورہ پڑتے تو اس پانی کے چھینٹے مریض کے منہ پر مارے۔ مسلسل یہ عمل دونوں امراض سے بیک وقت جان چھڑوا دے گا۔

اگر مریض بالکل نحیک ہو جائے تو میخا زردہ پکوا کر غریبوں یا بچوں میں ضرور تقسیم کرے۔

تپ دق یاٹی بی والے مریض نادِ علیٰ کو زعفران سے لکھ کر اسے گاب کے عرق کی بوٹی میں ڈال کر اس عرق کو پیجیں۔ اللہ کے فعل سے دونوں امراض کا خاتمہ ہو گا۔

اگر کوئی ویسے ہی بے ہوش ہو جاتا ہو یا اسے کسی بھی مسئلے میں دورے پڑتے ہوں تو اسی نقش کو دریا سے بھری ہوئی پانی والی بوٹی میں ڈال کر اپنے پاس اختیاط سے رکھے اور بوقت ضرورت اس پانی کے چھینٹے مریض کے منہ پر مارے اور ایک نقش کو اس کا نام مع والدہ لکھ کر اس کے گلے میں باندھئے۔

کینفسر کا علاج

اگر کسی کو کینفسر ہو جائے اور اس بات کی کمی تصدیق ہو کہ مریض کا بچانا ممکن ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہر گز ہرگز مایوس نہ ہو بلکہ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لے کیونکہ اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اس لئے مایوس ہونے سے

بہتر اس عمل کو کر لیتا چاہئے۔

نادِ علیٰ کو سرخ رنگی کپڑے پر کالی سیاہی سے لکھے اور اس کے نیچے نام مریض
مع والدہ لکھے اور اسے مریض کے دل کے مقام پر چکنے والی شیپ کے ساتھ لگائے اور
ایک ایسا نقش ایسے پانی میں ڈالے جو آقا و مولا ﷺ کے گنبد سے پارش کی صورت میں
نیچے گرتا ہو اور اسے جمع کیا گیا ہو۔ اگر یہ پانی مہیا نہ ہو سکے تو آب زرم کے پانی میں
اس پانی کو ڈال کر مریض کو پلایا جائے اور جس جگہ کینسر ہواں پانی کو اس مقام پر لاؤ
کر اس کی ہلکی ہلکی ماش کی جائے۔ اللہ کے حکم سے کینسر کا خاتمہ ہو گا۔

اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پینے والے نقش کو بارہ گھنٹے کے اندر پی کر اس
کاغذ کو نگلنا ہو گا اور تازہ نقش لکھ کر پھر اس پانی میں ٹوٹل کر پینا ہو گا۔ اسی طرح ہر بارہ گھنٹے
کے بعد نادِ علیٰ کو پانی سے نکال کر نگل جاتے اور تازہ نقش لکھ کر پانی میں ڈال کر اور پر بیان
کئے گئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرے۔ اللہ کے حکم سے کینسر کا جڑ سے خاتمہ ہی ہے۔

نادِ علیٰ کے فوائد کیش

نادِ علیٰ کے کئی فوائد ہیں جو یہاں مختصر درج کئے جاتے ہیں۔ پھر جس کسی کو جو
حاجت ہو وہ نادِ علیٰ کو استعمال کرے۔ اللہ کے حکم سے جس بھی مقصد کی خاطر نادِ علیٰ کو
استعمال کیا جائے گا وہ کام سو فیصدی ہو گا۔

☆ اگر کوئی سافر نادِ علیٰ کو زعفران سے لکھ کر اپنے پاس حفاظت سے رکھ لے تو جیسے
گھر سے سلامتی کے ساتھ جائے گا ویسے ہی واپس آئے گا۔

☆ اگر کسی کا نکاح نہ ہوتا ہو یا شادی بند کی ہو تو نادِ علیٰ کو زعفران سے لکھ کر اپنے
پاس رکھے اور اسے بعد نماز عشاء اپنے نام کے حروف کی تعداد کو نو سے ضرب دے کر اس
تعداد میں پڑھے۔ اللہ کے حکم سے نکاح بندی کا خاتمہ ہو گا اور شادی ہو گی۔

☆ دشمنوں پر رعب اور بد بہ حاصل کرنے اور ان کو اپنے حق میں زیر کرنے کے
لئے نادِ علیٰ کے نیچے نام دشمن مع والدہ لکھ کر اسے اپنے سیدھے بازو پر باندھے اللہ کے

حکم سے جو بھی دشمن ہو گا وہ اس فرد کے حق میں زیر ہو گا۔

☆ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ناد علیٰ چاندی کی انگشتی کے اندر لگا کر اور پر عقیق کا نگ جزو اکرا سے اپنے سیدھے ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنے۔ جو کوئی بھی دیکھے گا وہ فریقت ہو گا۔

☆ حافظتیز کرنے کے لئے ناد علیٰ گو صح نہار منہ چینی کی پلیٹ پر زعفران کے ساتھ لکھ کر اسے گلاب کے عرق سے دھو کر پہنے، ذہن کھلے گا اور جو کچھ بھی یاد کرے گا، وہ یاد رہے گا۔

☆ اضافہ کاروبار کے لئے ناد علیٰ گودکان کے بالکل سامنے زعفران سے لکھ کر لگائے گا اب بہت زیادہ آئیں گے۔

چھلہ لوح قرآنی

ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کو اس چھلے کے بنانے میں کوئی مشکل و دشواری پیش آئے لیکن کچھ محنت کے عوض بہت بڑا انعام حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ چھلہ آپ مجھ سے مناسب ہے یہ کے عوض بنو سکتے ہیں۔

ایک عدد خالص چاندی کا چھلہ ایسا بنوایا جائے جو گولائی میں استا ہردا اور چوزا ضرور ہو جس پر ناد علیٰ کے حروف یا اس کے اعداد تحریر ہو سکیں۔ پھر نو چندی جمرات کو سورج طلوع کے وقت اس کے سامنے کسی تیز دھار آ لے کی مدد سے اس چھلے کے گردان حروف کو لکھے اور باوضوحالت میں ہوتا ضروری ہے۔ جب حروف لکھ لئے جائیں تو اس کے لئے ایک عدالتی چاندی کی ڈیبا بنوائی جائے جس میں یہ چھلہ اور یہ سامان با آسانی ڈالا جاسکے۔ پھر ہر نو چندی جمرات کو اس چھلے کو اس ڈیبا میں پوری رات رکھے اور اگلے دن استعمال کرے۔ سنور لوگ، الائچی اور دلکش عطر ان سب اشیاء کو آپس میں ملا کر ڈیبا کے اندر رکھے اور پورا ہفتہ استعمال کرنے کے بعد اس چھلے کو اس ڈیبا میں نیا چاند دیکھ کر کھدے اور کوشش یہی کرے کہ نو چندی جمرات کو اسے اپنے ہاتھ میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس رات اسے اس ڈیبا میں ہونا چاہیے دن کو اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ہے۔

اب مختلف کاموں میں ایسے استعمال کرے جیسے کوئی فرد ایسا کھلیا ہو جو جائز ہو اور اس میں اسے ناکامی ہوتی ہو تو اس چھٹے کو لائے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنے۔ اللہ سے اپنی ترقی، فتح و نصرت کی دعا مانگے اور کھلیل شروع کرے۔ اللہ کے حکم سے اس کی فتح ہو گی۔

اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو اس چھٹے کو گلاب کے عرق میں کم از کم ایک گھنٹہ رکھ دے اور انہی حروف کو مسلسل مریض کے ہاتھ کے حروف ابجد کی تعداد کے مطابق ورد کر کے اس پر دم کرے اور چھٹے کو نکال کر اسے اپنی سیدھی انگلی میں پہنے اور اس عرق کو مریض کو پلاٹے۔ اللہ کے حکم سے طسماتی طور پر اور بہت جلد اس کے اڑات مرتب ہوں گے اور مریض شفاء پائے گا۔

درد شفیقہ سے ہمیشہ کے لئے نجات حاصل کرنے کے لئے اس چھٹے کو اپنی انگلی میں پہنہ جائے اور روزانہ دن کے کمی مختلف اوقات میں اس کو اپنی کنپیوں پر رگڑا جائے۔ درد شفیقہ و سر درد سے مکمل نجات یافتی ہو گی۔

دردزدہ سے نجات کے لئے اس چھٹے کو کسی کپڑے میں باندھ کر اسے گورت کی ٹاف پر باندھے اور قدرت الہی کا نظارہ کرے کہ کیسے با آسانی پیدا شد ہوتی ہے۔ ٹاف والے امراض اور اندر ونی بیماریوں کے خاتمے کے لئے اس چھٹے کو روز اپنی سیدھی انگلی میں پہنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اسے تازہ پانی میں کچھ دیر کر کے اور سونے سے پہلے یہ پانی پی کر سو جائے۔ اللہ کے حکم سے نہ تو ٹاف پڑے گی اور نہ ہی کوئی اندر ونی مرض اندر رہ سکے گا بلکہ اس روحانی چھٹے کی بدولت تمام ایਸم کے امراض جڑ سے ختم ہوں گے۔

جادو نونہ سایہ اور آسیب کے خاتمے کے لئے اس چھٹے کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی پیا جائے اور چھٹے کو مریض کی سیدھی انگلی میں پہنایا جائے۔



عمل و سنت غیب

غیب کے ذریعے رزق آنے اور ایسے طریقے سے رزق آنے کے لئے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا اس عمل کو کرے۔ بعض حالات میں بد نیتی طاقتور عمل کو بے کار کر دیتی ہے اس لئے نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے کامیابی ہوگی۔ انشاء اللہ۔

نادِ علیٰ کو نوچندی جھرات کو اکیس مرتبہ زعفران سے سفید کاغذ پر لکھئے اور اس کے نیچے اپنا نام صح و الدہ اور اپنا مختصر سامقصد لکھئے پھر نوچندی جھرات سے لے کر اگلے دس دنوں تک اسی تعداد میں نقوش کو لکھتے جائیں۔ کل گیارہ دن بیش گے ان گیارہ دنوں کے نقوش کو موم جائے کے کسی بڑے سے ٹکڑے میں محفوظ کرے اور اس کے باہر عطر لگا کر کسی چلدے اور درخت کی جڑ میں ان نقوش کو دفن کرے۔

گھر آ کر دوبارہ نادِ علیٰ پھر زعفران سے سفید کاغذ کو اپنے کار و باری مقام یا گھر کی چوکھت کے اوپر لگائے اور دوسرے کو اپنے روپے روکنے والی جگد یا گھر میں کئے جانے والا عمل صاحب عمل اپنی جیب میں رکھے۔ اس عمل کو دکان یا گھر دونوں کے لئے کیا جاسکتا ہے اس لئے دونوں کے طریقہ کار بھی لکھ دیئے گئے ہیں۔

حصول مقصد

اگر کوئی فرد زندگی میں ہر مرتبہ ناکامیاں ہوتا ہو اور خوبست کے پادل ش چھٹتے ہوں یا کسی ایسی بیماری یا مشکل میں بیٹلا ہو جس سے جان ن چھوٹی ہو تو ایسا فرد نادِ علیٰ کو نوچندی جھرات والے دن طلوع آفتاب کے وقت اس کے سامنے سفید کاغذ پر زعفران سے لکھئے اور اسے چاندی میں بند کرو اکر اپنے گلے یا سیدھے بازو پر باندھے اور قدر اگلی کاظمارہ خود اپنی آنکھوں سے کر لے۔ غیب سے رزق کی دولت گھر آئے گی۔
ناممکن کاموں کو ممکن بنانے اور رکاوٹوں کے خاتمے کے لئے اسی لفظ کو بروز جزا سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر چاندی میں بند کرو اکر گلے میں پہنے۔

بچوں اور بڑوں کی ناجائز ضد کے خاتمے اور ان کی کامل اصلاح کرنے کے لئے
ایک نقش کو ان کے گلے میں زعفران سے سفید کاغذ پر لکھ کر ڈالا جائے اور دوسرے کو سادہ
پانی میں گھول کر پلایا جائے۔

زن و شوہر میں سلوک

اگر میاں بیوی کا آپس میں سلوک و اتفاق نہ ہو اور ہر وقت بلا وجہ گھر میں
بھگڑتے ہوں جس سے بچوں پر براثر پڑتا ہو یا دونوں ایک دوسرے سے محبت تو کرتے
ہوں لیکن کوئی تیر ان کو جدا کرنا چاہتا ہو یا ان کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ان کا دشمن بن گیا
ہو اور ان پر غلط عمل کرواتا ہو یا دونوں کے مزاج نہ ملتے ہوں یا کوئی دوسری ایسی وجہ ہو جو
سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہو تو ناد علیؒ کو دونوں میں سے کوئی بھی زعفران سے تین عدد سفید
کاغذوں پر عروج ماہ میں بدھ کے دن بعد نماز مغرب لکھے۔ ایک ایک نقش کو دونوں میاں
بیوی اپنے گلے میں ایک دوسرے کا نام مع والدہ لکھ کر باندھیں اور تیرے کو صندل کے
شربت کی بوتل میں ڈال دیں اور روزانہ دن کے تین حصوں میں اس شربت کو سادہ پانی
میں ملا کر اس کو چین۔

حصول برکت

ہر کام میں برکت حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ رزق کرانے کے لئے نیا چاند
دکھائی دینے پر جو پہلا منگل ہو اس دن بوقت سورج طلوع ایک گھنٹہ بعد ناد علیؒ کو زعفران
سے سفید کاغذ پر دو عدد لکھے۔ نقش لکھنے سے پہلے گیارہ گیارہ مرتبہ ناد علیؒ کو پڑھے اور اس
کا گذپر دم کرو۔ جس پر نقش کو بھانا ہے پھر ناد علیؒ کو لکھ کر ایک کو اسی دن چلتے ہوئے
پانی میں اس پر آنالگا کر چھٹلی کو ڈال دے اور دوسرے کوششے کا فریم کرو اکر اپنی دکان کی
چوکھت کے اوپر لگائے۔

اگر اس عمل کا کوئی واضح فرق محسوس نہ ہو تو اس عمل کو دوبارہ کیا جائے اور ایک
مرتبہ نقش کو دریا میں بھانے کے بعد ناد علیؒ کو دکان کے اوپر لگانے کی بجائے اس کو پانی

میں ڈال کر اس کے چھینٹے دکان کے کونوں میں دے لیجئی ایک مٹی کا گھڑا لے اور اس میں نادِ علیٰ کو ڈال دے اور اسے جہاں چھینٹے دیجئے ہیں وہاں ایک کونے میں رکھ۔ اللہ کے حکم سے ہر کام میں سو فیصدی کامیابی ہوگی۔

کارہائے کلی کے لئے

اگر کوئی بلا وجہ غصہ کرتا ہو اور اس غصے میں کافی نقصان ہوتا ہو اور اس کی کوئی اصلاح نہ ہو رہی ہو تو نادِ علیٰ کو بروز جمعرات بعد نماز عصر زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اس کے نیچے اس کا نام مع والدہ لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی پلاۓ اور اگر ہو سکے تو ایک عدد نقش اس کے گلے میں بھی باندھے۔

شیطانی برائی سے نجات کے لئے نادِ علیٰ کو مریض کا نام مع والدہ لکھ کر اس کے گلے میں پہنائے اور دوسرے کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی پلاۓ۔ ہر ضرورت پوری ہونے کے لئے نادِ علیٰ کو بڑے سے سفید کاغذ پر زعفران سے لکھ کر چوکھت کے اوپر لگائے اور گھر کے دوسرے افراد نادِ علیٰ کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھیں۔ اللہ کے حکم سے ان کی غیب سے مدد ہوگی۔

نقصان سے حفاظت

ہر دنیاوی نقصان سے محفوظ رہنے اور اللہ کی پناہ میں رہنے کے لئے نادِ علیٰ کے نیچے اپنا نام مع والدہ لکھ کر اسے اپنے گلے میں باندھے اور اگر کسی بد عامل کے ذریعے جسمانی نقصان ہو چکا ہو تو گلے میں نادِ علیٰ کو باندھنے کے ساتھ اس کو سادہ پانی میں ڈال کر اس کا پانی بھی پئے۔ اللہ کے حکم سے جو بھی نقصانات ہو چکے ہوں گے ان کا ازالہ آئندہ کے لئے ہوتا رہے گا۔

اگر کسی فرد کا ہر وقت نقصان در نقصان ہوتا چلا جائے اور کوئی بھی دعا یا دو اثر نہ کرتی ہو تو نادِ علیٰ کو مریض اپنا نام مع والدہ بروز نوچندی بعد زعفران سے سفید کاغذ پر دو مرتبہ لکھے۔ ایک کو اپنے گلے میں باندھے اور دوسرے کو پانی میں ڈال کر اس کا صبح نہار

منہ پانی پئے۔ اللہ کے حکم سے آئندہ ہر قسم کے نقصان سے نجات حاصل ہوگی اور کام سیدھے ہو جائیں گے۔

اگر بچے گر جاتے ہوں اور ان کو چوٹیں لگتی ہوں تو نادِ علیٰ کو زعفران سے لکھ کر بچے کے گلے میں باندھے۔

فراغی کار

نادِ علیٰ کو کسی بھی سمجھ کام کو کھولنے، نکاح بندی کے عمل کے خاتمے، اولاد بندی کے عمل کے خاتمے اور بدنظری سے نجات حاصل کرنے کے لئے مریض مینے کی قوتاریخ کو سفید کاغذ پر زعفران سے لکھے اور اس کے نیچے اپنا نام صح والدہ لکھ کر اسے اپنے گلے میں باندھے۔

جس کسی کی بھی نظر بد لگتی ہوگی یا کوئی بعمل کروایا ہوگا اس کا اثر باطل ہوگا اور آئندہ کے لئے نادِ علیٰ کو باندھنے کے بعد اس وامان قائم رہے گا۔

رزق کی فراغی کے لئے نادِ علیٰ کو خرچ کرنے والے روپے کے دونوں طرف کالی سیاہی سے لکھے اور اسے اپنے پاس عطر سے معطر کر کے اپنی جیب میں رکھے اور پلیدی والی حالت میں اسے اپنے آپ سے علیحدہ کر لے اور بعد عمل کے پھر رکھے۔ غیر سے دولت آئے گی اور جیب نوٹوں سے ہر وقت بھری رہے گی۔

بانجھ پن اور نکاح بندی والے مریض نادِ علیٰ کو دو عدد زعفران سے سفید کاغذ پر لکھیں ایک کو اپنے گلے میں باندھیں اور دوسرے کو سادہ پانی میں ڈال کر اس کا پانی چینیں۔

نکاح کھولنے کے لئے نادِ علیٰ کو اگر لکڑی کی سکنگھی پر لکھا جائے اور اسے اپنے سر پر پھیرا جائے تو نکاح جلد ہوگا۔

عمل حفاظتِ شیطان

اگر کوئی مرد یا عورت شیطانا کے پیروکار بن گئے ہوں تو نادِ علیٰ کو ان کی اصلاح

کرنے کی خاطر زعفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور نیچے نام مع والدہ لکھ کر اس کے گلے میں باندھے۔ اس عمل کو ایسے افراد کے لئے بھی کیا جاسکتا ہے جو نہایت ضدی ہوں اور ان پر کسی بھی بات کا اثر نہ ہوتا ہو۔ ایک عذر نقش گلے میں باندھا جائے اور دوسرے کو زعفران سے سفید کاغذ پر لکھ کر پانی میں پلایا جائے۔ جو کوئی بھی ہو گا وہ اپنی ناجائز ضد چیزوں دے گا اور جو بات جائز ہو گی اس کو مانے گا۔

اس عمل کو ایسے بچوں کے لئے کیا جائے جو پریشان کرتے ہوں اور اسی شرارتیں کرتے ہوں جس سے دوسرے افراد عاجز آ چکے ہوں۔ اگر کسی فرد پر خوست کے بادل چھائے ہوں تو وہ نادعاً گوی زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے۔

عمل فتح و نصرت

دنیا کے ہر کام میں فتح و نصرت حاصل کرنے اور اپنے دشمنان و حاسد افراد کو اپنے حق میں زیر کرنے کے لئے نادعاً گوی خصوص نام دشمنان و حاسدان اس نقش کے نیچے لکھے اور اس سے نیچے اپنا مختصر سامعہدا بنا نام مع والدہ لکھ کر اسے اپنے سیدھے بازو پر باندھے۔ اللہ نے چاہا تو تمام دشمنوں کا منہ کا لا ہو گا اور وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس کے علاوہ دنیاوی کاموں میں ہر چھوٹی بڑی رکاوٹ کا خاتمہ ہو گا اور وہی ہو گا جو اللہ کو خیریت سے منظور ہو گا۔

اگر کسی فرد کو بدنظر بہت لگتی ہو تو وہ اپنے پہنے ہوئے صاف کپڑے پر نادعاً گوی لکھے اور اسے اپنے گلے میں باندھے زندگی میں بھی بدنظر کا اثر نہیں ہو گا۔

اگر کوئی دن بدن کسی گردش میں بیٹھا ہو رہا ہو اور کوئی اچانک ہی بتتا ہوا کام ناکمل ہو جاتا ہو اور اس بات کی سچی سمجھ بھی ن آ رہی ہو تو نادعاً گوی اپنا نام مع والدہ لکھ کر اپنے گلے میں باندھے۔

زہر خورانی کا علاج

اگر کسی نے کوئی زہر لی شے کھالی ہو جس سے زہر تمام جس میں پھیل رہا ہو یا

کوئی زہر بیلا جاتا رکاث لے تو ناد علی کو زعفران سے چینی کی پلیٹ پر لکھتے اور اس پر تھوڑا سا شہد لگا کر مریض کو صبح نہار منہ ضرور دن میں تین مرتبہ استعمال کروائے۔ اللہ نے چاہا تو جسم میں پھیلا ہواز ہر یہ روحانی شہد چوس لے گا اور کوئی بھی ایسا نقصان نہیں ہو گا جس سے جان چل جائے۔

دنیاوی تعلیم و امتحان میں کامیابی کے لئے ناد علی کو زعفران سے چینی کی پیالی کے اندر لکھتے اور بادام روغن کے ساتھ منا کر صبح نہار منہ پی جائے اس عمل کی بدولت بند ذہن کھلے گا اور وہ کچھ بھی یاد کرے گا وہ بھولے گا نہیں اس لئے امتحان میں کامیابی ہوگی۔

عمل اولا دنزینہ

اگر کسی کے ہاں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں اور ان کو خواہش لڑ کے کی ہو تو اس عمل کو کر کے اپنی کوشش کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے دونوں میاں بیوی ناد علی کو روزانہ چینی کی پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر شہد ڈال کر آدھا آدھا چاث لیا کریں۔ مثلاً نقش کی ایک طرف میاں چاث لے اور دوسری طرف بیوی۔

سات دنوں کے بعد ناد علی کو تین عدد زعفران سے لکھا جائے ایک کو سادہ پانی میں ڈال کر اس کا پانی کھلا استعمال ہر وقت کیا جائے اور باقی دونوں کو دونوں اپنے اپنے گلے میں باندھ لیں۔ اگر اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آگئی تو اولا دنزینہ ضرور ہوگی۔

اس عمل کو ایسی خواتین بھی کر سکتی ہیں جو بے اولاد ہوں وہ بالکل اوپر لکھے گئے طریقہ کار کے مطابق اس عمل کو کریں اللہ کے حکم سے اگر اللہ کی طرف سے دیر ہوگی یا کسی اپنے ہی عزیز نے کوئی علم کروایا ہو گا تو اللہ جلد سن لے گا۔

نجات و سوسہ

اگر کوئی فرد و سوسوں کی ایسی لپیٹ میں آجائے جس سے اس کا لکھنا مشکل ہو گیا ہو اور اسے دینی و دنیاوی ہر کام میں زیادہ سے زیادہ وسو سے آتے ہوں اور یہ اسی چکر

میں کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہوتا دعا علی گو بروز منگل بعد نماز عشاء رز عفران سے سفید کاغذ پر لکھے اور اسے اپنے سیدھے بازو پر چاندی کے اندر بند کر کے پہنچے اور ایک ایسے ہی نقش کو کسی بیٹھے شربت کی بوٹی میں ڈال دے اور گاہے بگاہے اس میں سے پانی ملائے بغیر اس شربت کو پچھی کی مدد سے پی لیا کرے اللہ کے حکم سے وہ سوون کا خاتمہ ہو گا اور اگر شیطان نے اپنا غلبہ جمالیا ہو گا تو وہ بھی اس کے روحاںی اثرات سے باطل ہو گا۔

اختلاج قلب والے مریض ہادی علی گو شربت والے عمل کے مطابق اوپر والی تدبیر کے مطابق استعمال کریں اور ایک عدد نقش کو اپنے دل کے مقام پر باندھیں اللہ کے حکم سے اختلاج قلب اور دل سے متعلق تمام امراض کا خاتمہ ہو گا۔

جسم پر گلٹیاں اور رسولیاں

ہر جسم کی رسولیوں کے خاتمے کے لئے ہادی علی گوتازہ چینی کی پلیٹ پر رز عفران سے لکھا جائے اور اسے صبح نہار منہ گلاب کے عرق سے دھو کر پیا جائے۔ اگر کوئی افاق محسوس ہو تو اس عمل کو اور مزید گیارہ دنوں تک کیا جائے اسی طرح سے اس روحاںی و نورانی عمل کی بدولت اللہ کے حکم سے رسولیوں کا خاتمہ ضرور ہو گا۔ بعد افاقت کامل محسوس ہونے پر اسی نقش کے نیچے اپنا نام مع والدہ لکھ کر اسے اپنے گلے میں باندھے اللہ اپنا کرم ضرور فرمائے گا۔ اگر گلے کے مقام پر کوئی گلٹی یا گلہڑ بن رہا ہو یا بن گیا ہو تو ہادی گو سفید کاغذ پر رز عفران سے لکھ کر اسے اپنے گلے کے مقام پر باندھے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور اس گلٹی کا خاتمہ ہو گا۔ اس کے ساتھ ہادی گو دھو کر پیا بھی جائے۔

جاہز حق حاصل کرنا

اگر کسی زبردست آدمی نے کمزور کا حق دبا کریا اس کی زمین قبضہ میں کی ہوئی ہے یا مکان و جائیداد کو دبا کر بیٹھ گیا ہے یا کسی نے سازش کر کے روزگار سے الگ کر دیا ہے اور وہ روزگار دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل انشاء اللہ کامل کامیابی دے گا اور

حقوق واپس دلائے گا اور مخالف کو مجبور کرے گا کہ وہ حق دار کو حق واپس کر دے۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک سکہ (سیس) کی لوح بنائیں وہنی یا مخالف کا نام معاویہ لے کر اعداد تکال کر اس میں ۵۷۲۲ کا اضافہ کر دیں۔ اگر افسر ہو تو اس کا پورا نام جو مشہور ہو لیں جس سے اس کو پکارا جاتا ہے ان اعداد کو جو حاصل ہوں گے، مریع ملعوس کندہ کر دیں۔ سیس کی صحیت پر کسی بھی نوکدار چیز سے لکھا جاسکتا ہے۔ جب نقش مکمل ہو جائے تو اس کے ارد گرد ناد علیہ کی عبارت لکھنا شروع کر دیں۔

نقش تیار ہونے پر نیچے نام مخالف کا لکھیں۔ پھر لکھیں:

برائی زور فتح شوچ شوچ کلام پاک مجھے میرا حق (انہا نام اور اپنے حق کا نام لکھیں) واپس دینے پر مجبور کرو جن یا اسرافیل یا عزرائیل یا میکائیل یا جبرایل پھر اس لوح کو کسی وقت سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس مکان یا جائیداد میں دفن کر دیں جو غصب کی گئی ہو، افسر ہو تو اس کے کمرے میں کسی جگہ پوشیدہ کر دیں۔ انشاء اللہ

کامیابی ہوگی اور ایسے اسباب پیدا ہوں گے جن سے مطلب حاصل ہو گا۔

لوح کے دوسری طرف اپنے مطلب کی تصویر بھی بنانی ہے مثلاً واپسی ملازمت کا ہو تو ایک آدمی جس کے ہاتھ میں قلم ہو کپڑے کی دکان ہو تو ایک آدمی جس کے ہاتھ میں کپڑا ہو۔ مکان ہو تو مکان کی تصویر بنا کیں علی ہذا القياس شکل و شاہست ضروری نہیں حض علامات کی ضرورت ہے۔ نقش کی رفتار ذیل میں دی جا رہی ہے۔

۷۸۶

۱۳	۲	۳	۱۶
۱۲	۷	۶	۹
۸	۱۱	۱۰	۵
۱	۱۳	۱۵	۳

نقش پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل اعداد میں سے ۳۰ تفریق کر کے باقی کو ۲۷ پر تقسیم کریں۔ حاصل منتخب کو خانہ اول میں رکھ کر پر کریں باقی ایک ہوتا خانہ ۱۳ میں ایک کا اضافہ کریں ۲ ہوتا خانہ ۹ میں ایک کا اضافہ کریں۔ اگر باقی ۳ ہوں تو خانہ ۵ میں ایک کا اضافہ کریں۔ نقش پر ہو جائے گا۔

عمل کثیر الفوائد

حصول علم، کامیابی امتحان، رکاوٹ، شادی بیان، ترقی نہ ہونا، حصول ملازمت یا ملازمت میں سے کا قبول نہ ہونا (بشرطیکہ ملازمت ٹرانسپورٹ یا نوشہ و خواند سے متعلق ہو) ان تمام امور کے لئے نادعلیٰ کا عمل پر تاثیر ہے اور اس وقت کی روحانیت سے فائدہ اٹھا کر مقاصد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

طریقہ یہ ہے کہ نام طالب میں والدہ کے اعداد ابجد قری سے نکالیں۔ پھر اس میں مطلوب کے اعداد بھی شامل کریں۔ مطلوب اگر افسر ہے تو اس کا نام معہدہ لیں اور اگر ترقی ملازمت وغیرہ کوئی مطلوب ہے تو اس کے اعداد لیں اور کل اعداد جمع کر کے اس میں ۳۵ عدد کا اضافہ کر دیں اور ۳ مرتب نقش پر کریں۔

پہلے دو لکھے ہوئے دریا میں بھادیں۔ گولیاں بنانے کی ضرورت نہیں۔

تیرنا نقش معطر کر کے مومن جامہ کر کے سیدھے بازوں پر باندھ لیں اور نیاز حسب توفیق رسول خدا ﷺ اور حضرت خواجہ حضرت کی دلائیں۔ اثناء اللہ مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔

عمل کے لئے مثال سمجھ لیں:

مثال طالب کا مطلوب ہے ترقی، طالب کے اعداد ۱۱ ہوئے۔ مطلوب "ترقی" ہے۔ اس کے اعداد ۱۰ ہوئے ہوئے۔ ۳۵ عدد قانون کے اور جمع کئے تو کل اعداد ۸۶۲ ہوئے جس کا نقش یہ ہتا۔

۷۸۴

۲۱۵	۲۱۸	۲۲۱	۲۰۸
۲۲۰	۲۰۹	۲۱۳	۲۱۹
۲۱۰	۲۲۳	۲۱۶	۲۱۳
۲۱۷	۲۱۲	۲۱۱	۲۲۲

نقش کی چال یہ ہے

۸	۱۱	۱۳	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۲	۱۶	۹	۴
۱۰	۵	۳	۱۵

یہ نقش آتشی چال کا ہے۔ ہر شخص اپنے نام کے حرف اول کے عضو کے مطابق نقش پر کرے۔ نقش پر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کل تعداد سے ۳۰ تفریق کریں باقی کو ۲ پر تقسیم کریں جو حاصل قسمت ہوا سے خانہ نمبر ۱ میں رکھ کر نقش کو چال کے مطابق پر کر لیں۔

اس مثال میں کل اعداد ۸۶۲ میں سے ۳۰ منہا کے تو باقی ۸۳۲ بچے اسے ۳ پر تقسیم کیا تو ۲۰۸ خارج قسمت ہوا۔ اسے خانہ اول میں رکھ کر ترتیب وار خانوں میں لکھتے گئے۔ نقش پر ہو گیا۔ بعض اوقات ۳ پر تقسیم کرنے سے کچھ اعداد باقی فتح رہتے ہیں۔ اگر ایک باقی بچے تو خانہ ۱۳ میں ایک کا اضافہ کر دیں۔ اگر باقی ۲ بچے تو خانہ ۹ میں۔ باقی ۳ بچے تو خانہ ۵ میں ایک کا اضافہ کر دیں۔ نقش پر ہو جائے گا۔

جو شخص بھی اپنے لئے یہ عمل تیار کرے اپنے نام کے حرف اول کے عضو کے

مطابق نقش پر کرے۔

عمل وصال و تغیر

زہرہ عورت سے متعلق ہے اور عیش و عشرت سے متعلق ہے۔ مشتری اور اکی اور ارنف قوتوں سے متعلق ہے۔ جب ان کا قران واقع ہوتا ہے تو ارضی پیاسائیوں میں اسی روحاںست پیدا ہوتی ہے جس کو اگر مادہ مناسب مہیا ہو جائے تو وہ سعادت جلب و قلب یعنی تغیر قلب کا کام دیتی ہے۔

دوستوں کو ملانے کے لئے یہ وقت بیجد موثر ہوتا ہے (خواہ واقف ہوں یا ناواقف۔) دو ناراضی دلوں کو ملانے، محبوب کو تغیر کرنے، میاں یبوی کی ناراضگی دور کرنے، افران کو تغیر کرنے، دشمن کو دوست بنانے، روشنے ہوئے کو منانے اور گئے ہوئے کو بلانے کے لئے یہ مثبت سریع التاثیر ہے۔ اس وقت جو بھی عمل کیا جائے گا تو فرد یا خلقت کسی مخفی طاقت کے زیر اثر خود بخود کچھی چلی آئے گی۔ لیذر، حکام، حکماء، طبیب، ذاکر، معلم اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو محبوب کو تغیر کرنا چاہیں کہ قید و بند کو توڑ کر کھنچا چلا آئے یا ناراضی میاں یبوی میں سے کوئی فرد واپس آ کر قدموں پر گرے تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں البتہ جائز صورتوں کو مد نظر رکھیں، ورنہ موکلات کا عمل ہے اس کی ناراضگی اچھا اثر نہ دے گی۔

چونکہ ہر شخص عملیات کے فہم کو نہیں پہنچتا اس لئے میں اس جزی طریقہ کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔ جس میں چل کی ضرورت نہیں سب کو عام اجازت ہے۔
تیاری تھا جگ کریں، جہاں لوبان و صندل کی خوبیوں میں روشن ہو۔
۱۔ اگر کسی عورت یا آدمی کی تغیر مطلوب ہو تو ایک خاص آیت حب کے اعداد لیں۔ جو ۱۳۹۳ ہیں۔

۲۔ اگر تغیر خلق مطلوب ہے تو اعداد ۲۸۹۸ لیں۔

۳۔ اول نام طالب معد والدہ اور نام مطلوب مع والدہ کے اعداد نکالیں اور حسب کی آیت کے اعداد اس میں شامل کریں۔ اب کل مجموعہ سے ۲۱ تفریق کرو جو باقی بچے ان کے حروف بنایا کر آگے کلہ ایل لگادیں۔ یہ موکل ہو گا۔

۴۔ اگر تغیر خلق مطلوب ہے تو اپنا نام معد والدہ لے کر اس میں آیت نمبر دو کے اعداد شامل کریں۔ کل سے ۲۱ عدد تفریق کر کے حروف بنایا کر آگے کلہ ایل لگالیں۔ یہ موکل ہو گا۔

۵۔ اب موکل حاصل کرنے کے بعد تغیر کرنا ہے۔ ایک سطر لکھو۔ پہلے نام مع والدہ پھر آیت بعد میں نام مطلوب معد والدہ۔ اب نئی سطر میں علیحدہ علیحدہ حروف میں یہ سطر لکھو اور اس کی تغیر جفری کرو۔ تغیر جفری کا مطلب ہے ایک حروف بائیں سے ایک دائیں سے لے کر ایک نئی سطر تیار کی جائے۔ پھر اس سطر پر ہی عمل دہرایا جائے۔ بلکہ ہر نئی آنے والی سطر پر یہ بائیں دائیں سے حروف لینے کا دہرایا جائے حتیٰ کہ سطر اول آخر میں ظاہر ہو جائے۔ اسے تغیر جفری کہتے ہیں۔

۶۔ مثلاً میں علی محمد کی تغیر کرتا ہوں:

ع	ل	ی	م	ح	م	د	س	ط	ر	ا	و	ل
د	ع	م	ل	ح	ی	م	م	د	ع	ح	ی	ل
م	د	ی	ع	ح	م	ل	م	د	ح	ی	ع	ل
ز	ام						م	د	ح	ی	ع	ل
س	ط	آ	ر	ح	م	د	ع	ل	م	ح	م	د

جب سطر اول پھر آخر میں ظاہر ہو جائے تو تغیر مکمل ہو گئی۔ اس میں سطر آخر چونکہ مکر ہے اس کو نہ لیں باقی تغیر میں سے پہلوئے راست کے حروف اور پہلوئے چپ کے حروف علیحدہ علیحدہ لکھو۔ اگر حروف جفت ہوں تو چار چار یا دو دو ملا لو اگر طاقت ہوں تو تین تین یا پانچ پانچ ملا کر آگے یوش لگادو۔ یہ اس عمل کا اعلان ہو گا۔ اسے اعلان

عمل کہتے ہیں۔

ے اب تمام عکس کے اعداد نکالیں۔ جو سطر زمام تک ہوں۔ سطر اول کے اعداد کل سطر عکس سے ضرب دے دیں گے تو کل عکس کے عدد معلوم ہو جائیں گے۔ ان اعداد کو عکس میں پر کرنا ہوگا۔

نقش عکس پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل اعداد سے ۲۰ عدد تفریق کر کے ۵ پر تقسیم کرو اور جو حاصل قسم آئے اسے خانہ اول میں رکھ کر ایک ایک کر کے اضافہ سے بھر طابق چال پر کرتے جائیں۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد ایک باقی بچے تو خانہ ۲۱ میں ایک کا اضافہ کریں۔ باقی ۳ عدد ہوتے خانہ ۱۱ میں ایک کا اضافہ کریں۔ اگر باقی ۲ ہوتے خانہ ۱۶ میں ایک کا اضافہ کریں۔ باقی چار ہوتے خانہ ۶ میں ایک کا اضافہ کریں۔ نقش پر ہو جائے گا۔

۱۱	۲۳	۷	۲۰	۳
۳	۱۲	۲۵	۸	۱۶
۱۷	۵	۱۳	۲۱	۹
۱۰	۱۸	۱	۱۳	۲۲
۲۲	۶	۱۹	۲	۱۵

نقش پر ہو جانے کے امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے میزان وہ آئے گی جس کو نقش میں پر کرنا ہے۔ کسی ایک طرف سے بھی میزان غلط ہوئی تو نقش درست نہ ہوگا۔

۸۔ تمام عکس کے اعداد جس کا نقش پر کیا گیا ہے ان میں سے ۳۱۹ عدد خارج کر کے باقی اعداد کے حروف بن کر آگے کلر طیش لگائیں۔ یہ جنات عمل پیدا ہو جائے گا۔

۹۔ نقشِ مخصوص کے جانب چپ طالب کی تصویرِ فرضی بنا کر اوپر موکل کا نام لکھیں۔

جانب راست مطلوب کی تصویر بنا کر اوپر جناتِ عمل کا نام لکھ دیں۔ یہ دونوں تصویریں فرضی ہوں گی۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ہاتھ ملا ہوا ہوگا۔ (تینجہ خلق میں تصاویر کی ضرورت نہیں) اب نقش کے جانب راست وہ اعلانِ عمل لکھیں۔ جو سطحِ عکس کی سیدھی جانب سے نکلا اور جانب چپ وہ اعلانِ عمل لکھیں۔ جو سطحِ عکس کے جانب چپ کے حروف سے نکلا۔ نقش کے پیچے عزیمت لکھیں۔

۱۰۔ ایسے تیرہ نقش تیار کر لیں۔ اس میں سے ایک نقش پاس رکھیں۔ ایک مطلوب کی گزرگاہ میں دفن کریں۔ باقی گیارہ نقوش کی بتیاں بنائیں۔ ایک ہفتی رات کو جلائیں اور باقی ڈس راتوں میں ہر رات تو بجے ایک ہفتی جلایا کریں۔ یا بعد کا وقت کوئی رکھ لیں لیکن مقررہ وقت کا روزانہ خیال رکھیں۔ نقشِ زعفران سے لکھے جائیں۔ بخورات بھی جلانا ہوں گے۔ تیل خوبصوردار چراغ میں ڈالیں۔ چراغ نیا ہو۔ کمرہ تباہ ہو۔ منہ چراغ کا مطلوب کے گمراہ کی طرف ہو۔ جب تک ہفتی جلتی رہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر یوں پڑھتے رہیں:

یا (موکل کا نام) احضر وَا (نام مطلوب مع والدہ) لمحلِ الساع

اگر درمیان عمل میں کوئی ثوکے۔ تو مت بولیں۔ مطلوب کے علاوہ کوئی اور عورت آئے تو قطعی توجہ مت دیں۔ تینجہ افسر یا حاکم یا دشمن مطلوب ہو تو حاضری کا عمل نہ کریں بلکہ احضر وَا کی جگہ حر قلب پڑھو۔ مثلاً یا موکل حر قلب (نام) لمحلِ الساع۔ انشاء اللہ گیارہ دنوں میں مقصد ہاتھ آ جائے گا۔

۱۱۔ اگر کسی دشمن کے افسر کی تینجہ مطلوب ہو تو نامِ دشمن مع باپ کے نام کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ افسر ہو تو نامِ عہدہ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ عکس میں بھی اسی طرح لکھتا ہے۔ یعنی پہلے نام اپنا م مع والدہ پھر آیت شریف پھر نام افسر مع عہدہ یاد دشمن۔

۱۲۔ اگر تینجہ خلق مطلوب ہو تو تم ن نقش لکھیں۔ لکھنے کے بعد آیت ولقد جاء

کم کو آٹھ سو ۹۲ مرتبہ پڑھ کر نقش پر دم کریں۔

اب نادیلی کو نقش کے چاروں طرف لکھ لیں اور نقش کو پیٹ کر ایک بازوئے راست پر باندھ لیں۔ ایک اپنے دفتر یا دکان میں شیشے کے فریم میں جزا کر لگا دیں۔ ایک اپنے گھر کی چھت پر کسی اوپری جگہ لٹکا دیں۔ اگر گھر میں درخت ہو تو اس پر لٹکا دیں یا کسی اور جگہ پھلدار درخت پر اوپر اٹکا دیں کہ ہوا چلنے سے ہے۔

نقش کو موم جامد ضرور کرو اسی میں تاکہ بارش وغیرہ سے خراب نہ ہو۔ نیز صرف جعرات اور جمع کو نقش استعمال کریں۔ مثلاً لٹکانا ہو تو جعرات یا جمع کا دن انتخاب کرو۔ بس کام ختم ہے مگر نادیلی روزانہ ۹۲ مرتبہ کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں۔ اول و آخر درود شریف لازم ہے تاکہ تفسیر خلق کی روحانیت جلد کھل جائے۔ دکانداروں کا روابری لوگوں کو جن کی آمدن خلقت کی آمد سے وابستہ ہو ان کو اس وقت فائدہ اٹھانا چاہیے۔

وہ لوگ جو نقش کو ایک معمولی کام تصور کرتے ہیں ان کو معلوم ہو گا کہ عمل تیار کرنا معمولی کام نہیں۔ چند خانوں کا نقش بڑی محنت اور مشکل کے بعد تیار ہوتا ہے۔ آپ محنت کریں گے تو ضرور فائدہ ہو گا چند گھنٹے میں لگ جائیں گے مگر اس کا نفع وہ ہو گا جو کوئی نہیں دے سکتا۔ قسمت عجیب و غریب طریقہ سے کھل جائے گی۔

اس طریقہ میں ابھی ایک بات اور واضح کرتا ہے کہ نئے لوگوں کو یا جنہوں نے میری کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ان کو حروف سے اعداد بنانا کر مولک بنانے میں الجھن پیش آئے گی۔ لہذا اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے مثلاً ۳۷۲۲ کے حروف بنانا کر مولک بنانا ہے تو ۱۹ عدد تغیریں کئے۔ ہاتھی ۲۰۱۰ رہے۔ اب اس کے حروف بنائیں اس میں ایک ہے۔ سات سو ہے۔ تین ہزار ہے۔ ایک کا الف، سات سو کا ذ، تین ہزار کے تین غ غ غ ہوں گے۔ حروف ہوئے۔ اذ غ غ غ مولک بننا۔ اذ غ غ غ میں۔ اگر تین زیادہ ہوں تو ان کو فرو کر کے تین لگایا جا سکتا ہے مثلاً تین غ ہیں تو غ غ غ میں۔ اس لحاظ سے مولک اذ غ غ میں ہو گا۔ دونوں مولک درست ہیں۔ اگر ۳۷۲۲ سے ۳۱۹ عدد خارج کر دیں تو باقی

۳۲۲۳ رہ جاسی گے۔ اعوان کے طیش لگانا ہے۔ اس لئے جگفقطیش اعوان ہو گا۔ آپ حل کرنے کی محنت کریں ممکن ہے ایک گھنٹہ میں حل کر لیں۔ ممکن ہے ایک ہفتہ حل کرنے میں لگ جائے۔ یہ آپ کی صلاحیت پر مخصر ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کی اس محنت کا حل کتنا بڑا ہو گا اور کتنا بڑا فیض نہیں ہے۔ مجھ سے کام کروانے والے جو وقت کا حل دے سکتے ہوں وہ لکھیں، میں حل کر کے رو انہ کر دوں گا۔

ناجائز تعلقات ختم کرنا

میں اور زمل ایک دوسرے کے دشمن ہیں اس دن ان دونوں میں جو نظر ہے وہ خمس اکبر ہے۔ لہذا اس وقت کی تاثیر بخوبی دشمنی کے سخت ترین ہے۔ اس وقت دو شخصوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کا عمل تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی جن مردوں عورت میں ناجائز تعلق ہو یا جن مردوں کے درمیان کا تعلق آپ کی جان و مال کے لئے اندیشہ ہو اور ان میں تفریق ہونے سے فائدہ ملے تیز ان نافرمانوں، سرکشوں اور دشمنوں کو عذاب دینے اور تنبیہ کرنے کے لئے موثر وقت ہے۔ جن سے عزت اور جان و مال کے نقصان کا اندیشہ ہے۔

اللہ پاک کا اسم "یا ملتم" ہے اس سے نادی چاہا امتحان دے کر اس وقت کام لیں۔ میں نے بجائے عزیمت کے اس الہی کا انتخاب اس لئے کیا ہے کہ بعض لوگ ناجائز کا خیال کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو اگر اس کا قصد ناجائز ہو گا تو یہ عمل کام نہ کرے گا جائز صورتوں میں بھی اثرات سے پہلے یہ مہلت اور فرست دیتا ہے۔ اور خوف بھی دلاتا ہے تاکہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ جو لوگ خدا پرست ہیں ان کا دشمن نفس ہے اس دشمن کو ختم کرنے کے لئے بھی یہی اس کام دیتا ہے۔ مگر اس کی ریاضت الگ طریق سے ہوتی ہے جو دنیا دار کسی ظالم سے غنگ ہیں ان کے

لئے بھی بھی اسم ہے یا تو ظالم ظلم سے باز آجائے گا یا کہنیں دور چلا جائے گا یا وہ کسی ایسے مرض میں جلا ہو جائے گا کہ اس میں ظلم کرنے کی صلاحیت نہیں باقی نہ رہے گی اور وہ اپنی ہی مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔

یاد رہے کہ قطب لوگوں کا بایاں وزیر بھی اسم ہے اور وہ اسی وزیر یعنی اسم " منتقم " سے کام لے کر ان سے انتقام لیتے ہیں۔ جب تم پر بھی کوئی دشمن ظلم کرے تو اس اس کے عدد کے موافق پاکیزگی کے ساتھ اس کی ریاضت کرے۔ اس کا مولک خواب یا بیداری میں حاضر ہو گا۔ اس وقت اس شخص کے لئے جو زیاد انتقام ہو جو یہ کرو اور اس سے کہہ دو اس کے مولک کا نام طلبیاً تسلی ہے۔

اگر کسی کو ہلاک کرنا ہو تو اسی الگی جبار اور ناد علیٰ ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ چونکہ خواص کے طریقے ہیں اس لئے ان کے بیان کی ضرورت نہیں اب میں وہ طریقہ لکھتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔

وقت مقررہ پر ناد علیٰ اور "المنتقم" کو نقشِ ذوالکتابت میں سیسی کی تختی پر کندا کرو اور اس پر ناد علیٰ کا ذکر کر ۶۶۱ (چھ سو اکٹھ) مرتبہ پڑھ کر دم کرو پھر اسے کالے کپڑے یا چڑیے میں بند کرو اور دشمن کے گھر کسی طریقہ سے دبادو۔

نقش کے نیچے جس مرض کا نام لکھو گے یا جس طرح چاہو گے وہ اس شخص میں ظاہر ہو جائے گا۔ یہ نقش آتشی چال کا ہے۔ ترتیب سے خانہ پری کرتے وقت جہاں حروف آئیں وہاں حروف ہی لکھ دیں۔ نقش یہ ہے۔

یاطلیانیل

فم	ت	من	ال
۸۹	۳۲	۱۳۹	۲۰۱
۳۳	۹۲	۲۹۸	۱۳۸
۲۹۹	۱۳۷	۲۳	۹۱

حصول مال و زر

حصول آمدن اور زر و مال کے لئے ایک بیجہ موڑ وقت ہے۔ اس وقت میں ان لوگوں کو فائدہ ہو گا جو آرٹن و اسٹل کا کاروبار کرتے ہیں۔ مشینزی کا کام ہو، انجینئرنگ ہوں، کسی قسم کا انجن چلاتے ہوں۔ فوج یا پولیس میں ملازم ہوں۔ مکینک ہوں۔ ادویہ اور دھاتوں کا کام کرتے ہوں۔ شعبہ مالیات سے متعلق ہوں یا خزانچی ہوں یا بینک میں کام کرتے ہوں۔

کسی بھی دن ساعت مشتری میں تائب، چاندی اور سکد کی مخلوط لوح بٹائیں اور مندرجہ بالا وقت پر اس کو کندہ کریں۔ لوح بنوانے کی ہمت نہ ہو تو میک و زعفران و عرق گلاب سے سفید کاغذ پر لکھ لیں۔ اگر مندرجہ بالاشعبوں سے متعلق کسی شخص نے اصلاً اور مطلقاً گزشتہ سالوں میں آمدن اور حصول مال میں کوئی تغیر و تبدل نہ دیکھا ہو تو وہ اپنی قسمت کو اس لوح کی بدولت بدلتا ہے۔ روز بروز باعث ترقی ہوگی اور روپیہ آنے کے مختلف اسباب حیلہ و بہاد سے پیدا ہوں گے۔ نیز اس لوح کی برکت سے حامل لوح کا کوئی افسوس کے خلاف قول فعل سے کام نہ لے گا۔ تیاری کے وقت خوبصوروث کریں اور تیاری کے بعد پاک و صاف کپڑے میں لپیٹ کر پاس رکھ لیں کچھ خیرات کریں اور نیاز دلانیں۔

طریقہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ اپنا نام معروالدہ کے اعداد لیں۔
- ۲۔ اسم منجم کے ۲۰۰ عدد لیں۔
- ۳۔ رب انشی کے عدد ۱۳۱۳ لیں۔

ان کو مندرجہ ذیل طریقہ سے مراعی میں پُر کریں۔ مثلاً طالب کا نام اکبر بن قادر ہے۔ عدد اس کے ۳۵۸ ہیں۔ رفتار نقش کو سامنے رکھ کر مندرجہ ذیل طریقہ سے

وضعی نقش مطلوبہ تیار کریں۔

۲۸۶

نام طالب	رب اگنتی	متعم	۵۲۵۲
۲۰۱	۵۲۵۱	۳۵۹	۱۳۱۲
۵۲۵۰	۱۹۸	۱۳۱۵	۳۶۰
۱۳۱۳	۳۶۱	۵۲۳۹	۱۹۹

میزان = ۷۳۲۳

۱	۶	۱۱	۱۶
۱۲	۱۵	۲	۵
۱۳	۹	۸	۳
۷	۳	۱۳	۱۰

۱۔ خانہ ۳۶۱ کو پُر کریں۔ خانہ اول میں ۳۵۸ کے بجائے نام مع والدہ لکھیں۔ خانہ ۲ میں ۳۳۵۹ میں ۳۶۰۔ خانہ ۳ میں ۳۶۱ یہ چاروں خانے ہر شخص کے نقش میں بدل جائیں گے اور بالترتیب عدد آئیں گے۔

۲۔ خانہ ۶۵، ۷۸ کو اس طرح پر کریں خانہ ۵ میں ۱۳۱۲ لکھیں۔ خانہ ۶ میں بجائے ۱۳۱۳ کے رب اگنٹی لکھیں۔ خانہ ۷ میں ۱۳۱۳ خانہ ۸ میں ۱۳۱۵ یہ خانے ہر نقش میں انہی اعداد سے قائم رہیں گے۔

۳۔ اب خانہ ۹، ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ کو اسی طرح پُر کریں۔ خانہ ۹ میں ۱۹۸ میں ۱۹۹، خانہ گیارہ میں منعم اور ۱۲ میں ۲۰۱ لکھیں۔ (یہ خانہ ہر شخص کے نقش میں اسی طرح قائم رہیں گے۔)

۴۔ اب خانہ ۱۳، ۱۴، ۱۵ اور ۱۶ کو پُر کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سرقش

کے تین لکھے گئے۔ اسے کے اعداد کو جمع کر لیں یعنی نام معاویہ۔ رب اغثی منعم مثال کے نقش میں $358 + 313 = 671$ ملا کر کل ۱۸۷۰ ہوں گے۔ اس میں سے ۳ عدد اور کم کر دیں تو ۵۲۳۹ رہے۔ خانہ ۱۳ میں ۵۲۳۹ لکھیں۔ ۱۵ میں ۵۳۵۰۔ پندرہ میں ۵۳۵۱۔ سولہ میں ۵۳۵۲ لکھیں۔

اب یہ نقش مکمل ہو گیا۔ اس کی میزان چاروں طرف سے ۲۷۳۲۲ آئے گی۔ آپ اپنا نقش بنا کر میزان دیکھ لیں۔ اگر کسی بھی طرف سے درست نہ ہوئی تو نقش درست نہ ہو گا۔ نقش کے اندر رخواہ کوئی نام ہو میزان بھی آئے گی۔

جب نقش مکمل ہو جائے تو اس پر گیارہ مرتبہ درود شریف، نادی علیٰ ایک ہزار سات بار اور دو سو بار یہ عزیمت پڑھیں۔

اجب یا جبرائیل یا میکائیل بحق یا منعم ان تقضی حاجتی اور مقصد کی دعا مانگیں۔ پھر شیرینی لا کر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر نیاز موکلات کی دلائے۔ کچھ خیرات کرے اور لوچاں رکھ لے یا لاکٹ بناؤ کر گلے میں پہن لے۔ اس کے بعد روزانہ کسی بھی وقت لوح سامنے رکھ کر دوسو بار مندرجہ بالاعزیمت اور ۲۱ بار نادی علیٰ صبح اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھا کرے۔ مال و دولت کے اساباں کھل جائیں گے اور حامل لوح ایک سال میں غنی ہو جائے گا۔ دنیا داروں سے مدد طلب کرنے والوں کو چاہیے کہ اس راستے سے کامیابی حاصل کریں۔

اعمال برائے نکاح

اگر کسی مرد یا عورت کے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہو اور وہ چاہے کہ نکاح کی صورت پیدا ہو جائے تو عشاء کی نماز کے بعد نادی علیٰ گیارہ سو گیارہ بار اس طرح پڑھ کے اول درود شریف گیارہ بار پھر نادی علیٰ پڑھے۔

اس کے بعد خشوع و خضوع سے دعا اپنے مطلب کے حصول کے لئے مانگے اور آخر میں پھر درود شریف گیارہ بار پڑھے۔ متواتر چالیس یوم تک اس پر عمل کرے۔

عورت میں خصوصی ایام کی کتنی بعد میں پوری کر لیں۔

اگر اس دوران مقصود حل ہو جائے تو بھی چالیس دن کا عمل پورا کریں لیکن اس صورت میں دعا میں تبدیلی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ طرفین کے لئے رشتہ کو بہتر بنادے۔

تا خیر نکاح سے نجات

اگر کسی عورت کی شادی میں تا خیر ہو رہی ہو، بات چل کر ختم ہو جاتی ہو تو درج ذیل عمل کریں۔

عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھنے نادلی گیارہ بار اس طرح ورد کریں کہ اول درود شریف ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں۔ پھر نادلی کا ورد کریں اور سجدے میں جا کر اپنے مطلب کے لئے دعا مانگیں۔ پھر سجدے سے انھ کر گیارہ بار پھر درود ابراہیمی شریف پڑھیں۔

اس عمل کو کم از کم گیارہ روز تک کریں۔ اس کے علاوہ باقی تمام نمازوں کے بعد حدیث پاک کے درج ذیل کلمات دس بار پڑھیں اور ان کے اول آخر دس دس بار درود شریف بھی پڑھیں۔ حدیث پاک کے کلمات یہ ہیں:

الله الله ربی لا شرک به شنا

پسندیدہ جگہ پر شادی

جو عورت یا مرد شادی کے دل پسند جگہ پر طالب ہوں وہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے بعد ۳۲۳، ۳۲۴ بار اور عشاء کی نماز کے بعد ۳۲۳، ۳۲۴ بار نادلی روزانہ پڑھیں۔ لیکن اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور ساتھ یہ دعا کریں کہ ”اے اللہ میرا کام فلاح جگہ کر دے اگر یہ میرے دین و دنیا کے لئے مفید ہو ورنہ جہاں تیری رضا ہو وہاں مجھے بھی منظور ہے۔“ انشا اللہ چند دن میں کامیابی ہوگی۔



حصول رشتہ

اگر کسی کی بیٹی کتواری ہو۔ اس کا رشتہ لینے کوئی نہ آئے یا شادی کا سامان میسر نہ ہو تو لاکی کا باپ یا سرپرست ناد علیٰ کا ورد گیارہ دن تک کرے۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ عروج ماہ میں جھرات کے دن سے شروع کرے اور عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ ناد علیٰ کا ورد اس طرح کرے کہ اول گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر خشوع و خضوع سے حصول مقصد کے لئے دعا کرے اور آخر پر درود شریف پڑھے۔

انشاء اللہ گیارہ روز کے عمل سے مراد کو پہنچ گا۔ بصورت دیگر دوسرے ماہ پھر گیارہ دن عمل کرے ضرور کامیاب ہو گا۔



اگر لاکیوں کے لئے رشتہ نہ آتا ہو یا والدین کے پاس ان کی شادی کے اسباب میسر نہ ہوں تو ذوالکتابت نقش ہفتہ کے روز ساعت مشتری میں جو طلوع کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد شروع ہوتی ہے ہرن کی جھلی پر دو عدد نقش تحریر کریں۔

دو توں نقوش پر ناد علیٰ ایک ہزار ایک بار پڑھ کر دم کریں۔ ایک نقش سوم جام کر کے لاکی کے گلے میں پہننا میں اور دوسرا گھر میں کسی دیوار پر لٹکا کیں انشاء اللہ بہت جلد لاکی کے رشتے کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

مینا	نقش	لک	انافتھا
۳۹	۵۹۲	۱۰۲	۳۹۰
۵۹۳	۵۲	۳۸۷	۱۰۱
۳۸۸	۱۰۰	۵۹۳	۵۱

شادی میں رکاوٹ دور کرنا

سورہ احزاب مع بسم اللہ کامل لکھتے۔ اس کاغذ پر مشک و زعفران و گلاب مل دیں۔ یا اس کاغذ کی تہہ لگا کر اس میں زعفران کی چکھ مقدار رکھ دیں۔

اب جس لڑکی کی شادی مطلوب ہے اس کے ایک دو دفعہ کے استعمال شدہ کپڑوں کو اچھی طرح دھو کر پاک صاف کر کے تہہ کر دیں اور سب سے اوپر قمیش تہہ شدہ رکھ کر اس کے اندر سورہ احزاب والا نقش رکھ دیں۔ نقش رکھنے سے پہلے اس کے کنارے پر تحریر کریں۔ ”یا اللہ فلانہ بنت فلانہ (لڑکی اور اس کی ماں کا نام) کے لئے تینک اور موافق خاوند کے حصول کے لئے سبیل پیدا فرمائے۔“

پھر اس پر سات سو سات بار نادِ علیٰ پڑھ کر دم کرے اور ان کپڑوں کو کسی ٹرک یا صندوق میں دوسرے سب کپڑوں کے نیچے رکھ دیں تاکہ دوسرے کپڑوں کا بوجھ اس پر پڑا رہے۔

ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ نتوں اس نقش کو بے وضو کپڑا جائے اور نہ ہی اس ٹرک یا صندوق میں کوئی ناپاک چیز یا کپڑا رکھا جائے انشاء اللہ بہت جلدی شادی کی سبیل پیدا ہوگی۔



اگر کسی لڑکی کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہو اور رشتہ ن آتا ہو تو نادِ علیٰ پانچ سو پندرہ بار اور سورہ یوسف کی آیت ۲۳ بعد نماز عشاء لڑکی اس جگہ بیٹھے بیٹھے پانچ دفعہ پڑھ کر بحمدے میں جائے اور صدق دل سے شادی کے لئے دعا مانگے اول و آخر درود شریف بھی پڑھے۔ انشاء اللہ جلد شادی ہو جائے گی۔

حسب پسند شادی

اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کے لاکے یا لڑکی سے شادی کرنا چاہے اور اس میں کوئی شرعی امر مانع نہ ہو اور خاندانی لحاظ سے ایسا ممکن بھی ہو یعنی خاندان انہوں میں معاشری یا

معاشرتی یا نسبی لحاظ سے ایسا فرق نہ ہو کہ یہ رشتہ بے جوڑ ہو تو اس کے لئے یہ عمل کیا جائے انشاء اللہ شادی ہو جائے گی۔

اگر کوئی مخصوص لڑکا یا لڑکی مطلوب نہ ہو بلکہ صرف شادی مطلوب ہو تو نادِ علیٰ^{الله} کر اس کے نیچے مطلوب کا اور طالب کا نام نہ لکھا جائے بلکہ صرف خواہش مند کا نام لکھا جائے کہ فلاں بن فلاں کی شادی ہو۔ اس کے لئے نادِ علیٰ^{کے} اس نقش کو ہدایت کے مطابق کمل کرے۔

اس پر نادِ علیٰ^{تین} سوتیں بار پڑھ کر دم کرے۔ اب دو پاک پتھروں کے درمیان اس طرح رکھے کہ ایک پتھر نیچے زمین پر رکھئے کسی شے کے اوپر نہ رکھے۔ اس پر نقش رکھ کر دوسرا پتھر اس پر اس طرح رکھئے کہ اس کا سارا وزن نقش پر پڑے۔ لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ نقش قمری ماہ میں توجہدی پیر کی صحیح سورج نکلنے سے پہلے پہلے لکھئے۔ صرف جائز کام میں استعمال میں لائے ورنہ کام نہ دے گا اور نقصان ہو گا۔ ضابطے کے تحت نیچے نام پہلے مطلوب کا اور بعد میں طالب کا لکھا جاتا ہے۔ نادِ علیٰ^{کا} یہ حرفي نقش طالب اپنے تکریے کے نیچے بھی رکھ سکتا ہے۔

پیغام نکاح منتظر ہونا

اگر کسی جوان لڑکی کے لئے پیغام نکاح نہ آتا ہو اور اس کی شادی میں رکاوٹ ہو تو وہ خود یا اس کے والدین میں سے کوئی ایک تجد کے وقت تجد کی نماز کے بعد نادِ علیٰ^{کے} ایک ہزار بار پڑھ کر شادی کے لئے دعا مانگے اور یہ نقش لڑکی کے دامیں بازو پر بندھوایا جائے۔ انشاء اللہ جلدی کی سہیل پیدا ہو جائے گی۔

۷۸۶

۱۱	۸	۱	۱۳
۲	۱۳	۱۲	۷
۱۶	۳	۶	۹
۵	۱۰	۱۵	۳

نکاح نہ ہو رہا ہوتا

اگر کسی جوان لڑکی کے لئے پیغام نکاح ن آ رہا ہو یا بات چل کر ختم ہو جاتی ہوتا
مندرجہ ذیل نقش باوضوکھ کراں پر ایک سو دس بار ناداعلیٰ پڑھ کر دم کرے۔ پھر گھر میں کسی
اسکی جگہ پر کم از کم پانچ کلووزنی پتھر کے نیچے دبائیں جہاں سورج اور چاند کی روشنی ن
جانی ہو۔ لڑکی کے رشتے آنے شروع ہو جائیں اور جلد شادی ہو جائے گی۔

۷۸۶

یابدوح تبد و حث من البدوح بدوحک یابدوح

۲۱	۱۶	۲۳
۲۲	۲۰	۱۸
۱۷	۲۳	۱۹

بچیوں کی شادی کے لئے ناداعلیٰ باوضوکھ کر نیچے مندرج نقش تحریر کریں اور مووم
چام کر کے لڑکی کے گلے میں لٹکائیں۔ لٹکا ہو تو نقش اس کے دامیں پازو پر بندھوا جائیں
انشاء اللہ جلدی شادی ہو جائے گی۔ یہ نقش اس باری تعالیٰ "اطیف" کا ہے۔ اس باری
تعالیٰ "معطی" کا عددی نقش بھی سمجھی ہے کیونکہ "اطیف" اور "معطی" ہر دو کے قدری اعداد
تعالیٰ ہی ہیں۔

۷۸۶

۸	۱۱	۱۰۹	۱
۱۰۸	۲	۷	۱۲
۳	۱۱۱	۹	۶
۱۰	۵	۲	۱۱۰

حصول رشتہ اور روٹھے کو منانا

اگر کسی جگہ رشتہ کرنا چاہیں اور کامیابی نہ ہوتی ہو تو ناد علیہ معاشر بسم اللہ شریف باوضو ہو کر لکھیں۔ کاغذ پر نام طالب و مطلوب مع والدہ بھی لکھیں۔ اس کے بعد کاغذ کو کسی ذبیہ یا بوٹل میں بند کر کے اس کے منہ کو مووم نے اچھی طرح بند کریں پھر اسے سیاہ کپڑے میں پیٹ کر دو پھر وہ کے درمیان گھر کے اندر کسی ایسی اندر حیری جگہ رکھیں جہاں سورج کی روشنی بالکل نہ پہنچتی ہو۔ انشاء اللہ رشتہ مل جائے گا۔
اگر عورت روٹھ کر چلی گئی ہو یا یہوی یا بچے نافرمانی کرتے ہوں تو اس کے لئے بھی یہی عمل کریں انشاء اللہ راہ راست پر آ جائیں گے۔

ایک نادر عمل برائے نکاح

اگر کسی جوان لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو یا بات چل کر ختم ہو جاتی ہو تو ایک عدد لکھنگھی لے کر اس پر اول و آخر درود شریف ابراہیمی اور درمیان میں ناد علیہ حکیمیارہ بار پڑھ کر لکھنگھی پر دم کر دیں۔ یہ لکھنگھی اس مخصوص لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال نہ کرے۔ انشاء اللہ بہت جلد شادی ہو جائے گی۔



اگر کوئی عورت یا مرد اپنی پسند کی جگہ شادی کرنا چاہے بشرطیکہ ظاہر طور پر معاشری معاشرتی یا نسبی امور نامنوع نہ ہوں تو درج ذیل عمل کرے انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔
اس کے لئے نماز پنجگانہ کا اہتمام کرے اور بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد یہ ورد کرے۔ اول و آخر تین سات یا گیارہ مرتبہ کوئی سا درود پاک پڑھئے اور درمیان میں پوری ۳۱۲ کی تعداد سے ناد علیہ اور اس کے بعد درج ذیل کلمات پڑھئے۔ کلمات پڑھتے وقت مقصد کا خیال کرے۔

یامستار العیوب یا مسبب الامساں

ایاک نعبد و ایاک نستعين رب اغفر و ارحم وانت خیر الراحمین ۵

بہتر ہے کہ ان اعمال میں ترتیب یہ رکھے کہ سب سے پہلے مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد نادر علیؒ اور پھر ورد آیات و اسماء جو بھی ہو۔ پھر ہاتھ اٹھا کر خشوع و خضوع سے اپنے مطلب کے لئے اس طرح دعا کرے کہ اپنی آواز اپنے کانوں تک پہنچ آخہ پر پھر درود شریف مقررہ تعداد میں پڑھ لے۔

منتظری پیغام نکاح

جس لڑکی کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہو وہ بعد نماز عشاء نادر علیؒ کو اول و آخر طلاق عدد میں درود پاک کے ساتھ درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد دلی کے لئے دعائیں گے اور اسی کو گلاب و زعفران سے لکھ کر لڑکی کے گلے میں پہنایا جائے یا باسیں بازو پر بندھوایا جائے۔



اگر کسی عورت کی شادی نہ ہوتی ہو تو کامل سورہ طہ کو ایک سفید رسمی کپڑے پر لکھ کر بازو پر باندھا جائے اور کاغذ پر سورہ طہ اور نادر علیؒ لکھ کر اسے پانی میں گھول کر یہ پانی عورت کو پلایا جائے۔ بہت جلد نکاح ہو جائے گا۔



اگر شادی نہ ہوتی ہو یا عورت یہو ہو گئی اور اب کوئی پیغام نہ آتا ہو تو اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اور درمیان میں ایک سو ایک بار نادر علیؒ اکیس دن تک پڑھے۔ انشاء اللہ عزیز سے حصول مراد کا سامان پیدا ہو گا۔

اچھے بر کا حصول

اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو تو بہتر ہے کہ ان کے والدین میں سے کوئی ایک اس مقصد کے لئے ایک ہزار بار روزانہ اکیس روز تک عشاء کی نماز کے بعد نادر علیؒ پڑھے۔ انشاء اللہ عزیز مراد حاصل ہو گی۔



اگر کسی شخص کے بینے یا بینی کے لئے پیغام نکاح نہ آتا ہو اور وہ چاہے کہ کسی اچھی جگہ ان کی شادی ہو جائے تو عشاء کی تہذیب کے بعد تین ہزار تن سوتیرہ بار روزانہ اکیس دن تک ناد علیٰ پڑھے۔ انشاء اللہ جلد ہی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی۔ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف بھی پڑھے۔ انشاء اللہ اس عرصے میں مراد حاصل ہوگی۔

پیغام نکاح کی قبولیت

ناد علیٰ کو کاغذ پر لکھ کر لڑکی کے بائیں بازو پر بندھوائیں پھر جہاں خیام بھیجیں گے انشاء اللہ منظور ہو گا۔ اس صورت میں دوائیں بازو پر بندھوائیں پھر جہاں خیام لکھی کے ساتھ باندھیں یا چپکائیں اور کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت ۲۷۸۔ لکھ کر لکھی کے ساتھ باندھیں یا چپکائیں اور مخصوص لڑکی یا لڑکے کو دیں کہ صرف وہی اس لکھی کو استعمال کرے۔ انشاء اللہ شادی ہو گی۔



اگر کسی کی شادی نہ ہو اور چاہے کہ شادی ہو جائے تو ناد علیٰ لکھ کر بازو پر بندھوائیں۔ ساتھ ہی سورہ طہ کی آیات ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ بھی لکھ کر باندھی جاسکتی ہیں۔

حمل نہ ٹھہرنے کے اسباب

بعض اوقات زوجین کی شادی کو کئی سال گزر جاتے ہیں مگر استقرار حمل نہیں ہوتا۔ اس میں کئی امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ علاج معالجہ شروع کرنے سے پہلے مندرجہ ذیل باتوں کی طرف توجہ دیں:

- ۱۔ کیا عورت کا ماہانہ نظام بالکل درست ہے؟ ہر بار ۲۸ یا ۲۹ کا مہینہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بار جب ماہواری شروع ہو تو اس سے اگلی بار ۲۸ یا ۲۹ دن بعد شروع ہونی چاہیے اس سے کم یا زیادہ دن کے بعد شروع ہو تو بھیجیں کہ یہاں ہی ہے اس کو باقاعدہ کرنے کے لئے طبی علاج بے مددی ہے۔

- ۲۔ عورت کے رحم میں کوئی خرابی تو نہیں؟ مثلاً رحم کی ثبوتوں کی سوزش یا درم یا

ان میں کسی حتم کی رسولی وغیرہ کسی ماہر لینڈی ڈاکٹر سے چیک کروالیا جائے اور خرابی کی صورت میں پہلے اس کا علاج کیا جائے۔

۳۔ کیا مرد جنسی لحاظ سے تدرست ہے؟ اس کا منی ثیسٹ کروالیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنے فیصد جرثوے فعال ہیں۔ اس کے علاوہ منی کی رنگت اس کا قوام۔ اس کی ایک وقت میں اخراج کی مقدار وغیرہ ان سب باتوں کے متعلق ثیسٹ رپورٹ حاصل کریں کہ یہ تسلی بخش ہیں۔ بصورت دیگر جو کسی ہواں کا علاج کریں۔

۴۔ کیا زوجین پاہی تعلق کی صورت میں جنسی رغبت اور اشتعال اور فرحت محسوس کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو فریقین میں سے جس میں کسی ہواں کا علاج کیا جائے۔

۵۔ کیا زوجین آداب مبادرت سے آگاہ ہیں؟ نہیں تو مطالعہ کریں کہ کون کون سے امور حمل کے استقرار میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

۶۔ عورت موٹاپے کا شکار تو نہیں؟ کیونکہ اس صورت میں رحم اور اس کے ارگرد چربی کی ایک وافر مقدار جمع ہو جاتی ہے جو استقرار حمل میں مانع ہو سکتی ہے۔
۷۔ اگر عورت سیلان الرحم (لیکوریا) کی مریض ہے تو اس سے بھی بعض صورتوں میں استقرار حمل میں رکاوٹ ہوتی ہے۔

اگر مندرجہ بالا امور رکاوٹ کا باعث نہیں ہیں تو استقرار حمل ہونا چاہیے۔ اس کے لئے روحاںی علاج کی طرف توجہ کریں اور درج ذیل طریقوں کو اپنا میں:

☆ بھرے ہوئے یا بالکل خالی پیٹ یعنی بھوک کی شدت کی صورت میں جماع سے پرہیز کریں۔ اس کے لئے رات کا آخری یعنی تین چوتھائی رات گزرنے کے بعد کا وقت بہت موزوں ہے۔

☆ جماع کی صورت میں عورت کی کراں کے سیند کے مقابلہ میں قدر سے اوپنی رہے۔

☆ ازال کے بعد عورت اسی صورت میں کم از کم آدھے گھنٹے لیٹی رہے۔

یہ امور استقرار حمل میں معاون ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔

بانجھ پن کا علاج

پانچ عدد لوگ سالم اور درست لیں ہو لوگ پر ناد علیٰ ایک ہزار ایک بار اور سورہ تور سات بار پڑھیں۔ ایام حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت روزانہ ایک لوگ کھائے اور اپنے خاوند سے مباثرت کرے۔ انشاء اللہ حاملہ ہوگی۔

استقرارِ حمل

جس عورت کو استقرارِ حمل نہ ہوتا ہو جبکہ کوئی طبعی نقص بھی نہ ہو تو چالیس لوگ صحیح و سالم لئے جائیں ان میں سے ہر لوگ پر ناد علیٰ ایک سو دس بار اور سورہ نور سات سات بار پڑھی جائے۔ ایام سے فارغ ہونے کے بعد عورت روزانہ رات کو ایک لوگ دودھ سے کھائے اور اس کے بعد پانی نہ پئے۔ اس دوران اپنے خاوند سے صحبت بھی کرے۔ انشاء اللہ حمل قرار پا جائے گا۔



قولِ الجمیل میں ہے کہ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو اس کے لئے ہر کی بھلی پر عرق گلاب میں زعفران حل کر کے اس سے سورہ الرعد اور ناد علیٰ لکھئے اور مووم جامد کر کے اس عورت کے گلے میں اس طرح لٹکائے ک نقش یعنی تک آئے۔ جلد حمل قرار پائے گا۔

بانجھ پن کا مجرب نقش

یہ میرا معمول و مجرب نقش ہے۔ جب عورت ایام حیض سے فارغ ہو تو مندرج ذیل نقش شام پر ناد علیٰ سات سو سات بار دم کر کے چھ گھونٹ پانی میں حل کیا جائے۔ رات سونے سے قبل تین گھونٹ مرد پئے اور تین گھونٹ بیوی پئے۔ رات کو حقوق رو جیت ادا کریں۔ اسی طرح ایسا ہی ایک تحویل دوسرے دن اور پھر تیسرا دن استعمال کریں۔ انشاء اللہ ضروری استقرارِ حمل ہوگا۔

نقش درج ذیل ہے۔

۲۱	۵	۱۲	۸
۷	۲۱	۵	۱۲
۲۶	۷	۲۱	۵
۱۸	۲۱	۷	۲۶
۱۹	۱۸	۲۶	۷

قیام حمل کے لئے

اگر کسی عورت کا حمل بار بار ساقط ہو جاتا ہو تو نادلی لکھ کر روزانہ جالیں روز تک پانی میں حمل کے پلایا کریں۔ انشاء اللہ حمل قائم رہے گا۔

عمل حصول اولاد

اگر زوجین اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور بظاہر استقرار حمل میں کوئی شے یا بیماری وغیرہ منع بھی نہ ہو تو عورت کے لایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد دودھ پر سورہ حشر کی آیت مبارکہ ۲۳ اور نادلی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر سات سات بار درود شریف بھی پڑھیں۔ پھر میاں بیوی آدھا آدھا دو دو دھنپی لیں شب کو وظیفہ زوجیت ادا کریں۔ ایک ہفتہ عمل جاری رکھیں انشاء اللہ حمل قرار پا جائے گا۔

ایک مجرب عمل حصول اولاد

اگر کسی سبب سے حمل کا استقرار نہ ہو یا بار بار حمل ساقط ہو جاتا ہو تو استقرار حمل کے لئے استقرار سے قبل اور حفاظت کے لئے بعد استقرار سے وضع حمل تک حامل استعمال جاری رکھے۔ نسخہ عمل یہ ہے۔

مرچ سیاہ اور اجوان اور دیسی بر ابر ہزن لے کر صاف کر لیں پھر پیر کے روز دو پھر

کے وقت باوضو ہو کر نادعی اکتا لیں بار اور سورہ الحسین چالیس بار پڑھ کر دم کریں لیکن ہر بار درود پاک اور تسبیہ پڑھ کر شروع کریں اور آخر پر بھی درود پاک پڑھیں۔ اس طرح ہر بار چالیس بار سورہ اور اکتا لیں بار نادعی اور درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ پڑھ کر دونوں چیزوں پر دم کریں۔

عورت حب ضرورت دو تین دانے کا کی مرجح اور آٹھ دس دانے اجوائیں کے سعی نہار پانی کے ہمراہ نگل لیا کرے۔ انشاء اللہ استقرار حمل کے ساتھ تحفظ حمل بھی ہو گا۔ عورت اس کا استعمال بچے کا دودھ چھڑانے تک جاری رکھے۔ اس طرح انشاء اللہ آئندہ کے لئے اس بیماری سے مستقل طور پر نجات مل جائے گی۔

عورت اور درخت کا شمر آ ور ہونا

بسم الله الرحمن الرحيم

الله الله الله الله الله الله

حی حی حی حی حی حی

قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم

وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد والہ اجمعین

یہ عبارت مکمل لکھ کر اس پر نادعی ایک سو گیارہ بار پڑھ کر پھونک دیں اور عورت کے گلے میں لٹکائیں۔ انشاء اللہ حاملہ ہو گی۔

اگر کوئی چلدار درخت بچل نہ دے رہا ہو تو یہی لکھ پڑھ کر اس پر اوپر کی جانب باندھیں۔ انشاء اللہ خوب بچل دے گا۔

برائے حمل

جب عورت ایام حیض سے نہا کر پاک ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحيم کا نقش اس طرح

تیار کریں کہ اس کے تمام حروف کو مفرد یعنی الگ الگ اس طرح لکھیں۔

بسم الـلـه الـرـحـمـن الـرـحـيـم

ای طرح مفرد حروف میں بسم اللہ شریف کو ایک سو دس بار اور ارد گرو ناد علیہ سات بار لکھیں اور نقش بنا کر موم جامد کر کے عورت کے گلے میں اس طرح لٹکائیں کہ نقش ہاف سے اوپر رہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے دن سے ہی غروب آفتاب سے پہلے سورہ فاتحہ اور ناد علیہ مع بسم اللہ الرحمن الرحيم کسی چینی کی طشتہ میں لکھیں اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے پانی میں حل کر کے عورت کو پلا میں۔ مسلسل چالیس روز تجھ کی عمل کیا جائے۔

پہلے ماہ کے پاک یام میں ہم بستری کرتے رہیں۔ اگر حمل قرار نہ پائے تو حیض کے لیام چھوڑ کر آگے پھر عمل جاری رکھیں انشاء اللہ استقر ار حمل ہو گا۔ جب استقر ار حمل پر دو ماہ گزر جائیں تو یہ نقش کھول سکتے ہیں مگر احتیاط کے لئے کوئی دوسرا نقش تحفظ حمل کے لئے پہنادیں۔



ایک شیریں اتار لے کر اس کی چار چانکیں اس طرح کریں کہ الگ الگ نہ ہوں پھر ان پر سورہ نبیین پڑھنی شروع کریں۔ جب پہلے میں پر پہنچیں تو ستر بار ناد علیہ اتار پر دم کریں۔ اسی طرح ساقوں میں پر باری باری ناد علیہ دم کرتے ہوئے سورہ حمل کریں۔ اس کے بعد عورت اس اتار کو ایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد کھانے۔ کھانے سے پہلے ایک پاؤ کشش اور ایک پاؤ پھنے نفت سلطین کے ایصال ثواب کے لئے چھوٹے بچوں میں تقسیم کرے۔



جو عورت حاملہ نہ ہوتی ہوا سے یہ نقش لکھ کر اس پر گیارہ ہزار بار ناد علیہ دم کر کے دیں۔ وہ اس نقش کو اپنی چوٹی پر باندھے اور خاوند سے ہم بستر ہو۔ انشاء اللہ حاملہ ہو گی۔

ی	ی	ی	ی
و	و	و	و
۹	۹	۹	۹
ے	ے	ے	ے



اوار کے روز نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے درج ذیل عبارت لکھ کر اس پر ایک سو دس بار ناد علیٰ پڑھ کر دم کرے۔ پھر اس قدر لبی ڈور کے ساتھ گلے میں لکھئے کہ یعنی تک رہے۔ لکھتے وقت چھوٹے بچوں میں کچھ شیرینی تقسیم کرے۔ حیض سے فراغت کے بعد استعمال کرے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
علی علی علی علی علی علی علی^۱
هو هو هو هو هو هو هو

برحمتك يا ارحم الراحمين

اس سے ملتا جلتا ایک توعید حضرت امام صادقؑ سے منسوب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس توعید کو گلاب و زعفران سے لکھ کر عورت حیض سے طہارت کے بعد موم جامد کر کر پر باندھتے تو انشاء اللہ حاملہ ہوگی۔

اگر کوئی درخت پھل نہ دیتا ہو تو اسی نقش کو درخت کی سب سے اوپری شاخ پر باندھیں۔ انشاء اللہ پھل دیئے گے گا۔ توعید یہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
هو هو هو هو هو هو هو

حی حی حی حی حی حی حی
قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم قیوم
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و آلہ اجمعین

بانجھ عورت کے لئے

جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو اسے مرچ سیاہ اور اجوان دیکی صاف شدہ پر سوت المونون کی آیت چودہ درج ذیل سورہ مبارکہ اور ناد علیٰ ۸۰ بار پڑھ کر دم کر کے دے۔ عورت اس میں سے تین تاسیت دانے مرچ سیاہ اور دس پندرہ دانے اجوان کے روزانہ

صحیح نہار کھالیا کرے۔ انشاء اللہ حاملہ ہوگی۔ بچے کے دودھ پینے تک مرچ سیاہ اور اجوان
کھاتی رہے۔ دم کرنے کے لئے یہ پڑھے۔

سورہ المholm تین بار

سورہ المنثرح تین بار

سورہ الکافرون تین بار

آغاز و آخر پر گیارہ گیارہ بار درود و شریف پڑھنا نہ بھولے۔



جس عورت کی گود ہری نہ ہوتی ہو اس کے لئے ایک انار شیر میں لے کر اس کی
چار چانکیں اس طرح کریں کہ وہ الگ الگ نہ ہوں پھر ان پر نادی علیہ ستر بار اس طرح
پڑھیں کہ جب آخر پر پنچیں انار کو کھول کر دم کر دیں۔ اسی طرح سات بار دم کر کے عمل
مکمل کریں۔

دم کرنے کے بعد ایک پاؤ کشش اور ایک پاؤ بستن ہوئے ہنے ہفت سلاطین کے
ایصال ثواب کے لئے چھوٹے بچوں میں تقسیم کریں۔

اس کے بعد عورت اس انار میں سے روزانہ پنج دفعے کھائے اور خاوند سے ہم
بستر ہو۔ یہ سارے عمل حیض سے پاک ہونے کے بعد کیا جائے۔



اگر کوئی عورت اولاد سے محروم ہو تو ایام پاک میں مسلسل دس رات روزانہ ایک
ہزار بار نادی علیہ پڑھا کرے۔ دس رات میں دس ہزار مکمل کریں۔ انشاء اللہ اس کا بانجھ پن
ختم ہو جائے گا۔ اگر عورت نہ پڑھ سکے تو اس کا شوہر پڑھے انشاء اللہ بامرا د ہوں گے۔

بانجھ پن کا علاج

اولاد ہونے میں رکاوٹ کی اگر کوئی طبی وجہ نہ ہو تو عورت روزانہ عشاہ کی نماز
کے بعد اول و آخر سات یا گیارہ بار درود و شریف اور درمیان میں ایک تسبیح نادی علیہ کی پڑھا
کرے۔ مکمل عمل نوے دن کا ہے اگر استقرار حاصل ہو جائے تو بھی نوے دن پورے

کرے۔ پڑھنے کے علاوہ پانی پر دم پر کرے اور میاں بیوی دونوں وہ پانی پی لیا کریں۔ درمیان میں ناخ کے دن آئیں تو وہ تعداد بعد میں پوری کرے۔ اگر کسی عورت کو حمل نہ شہرتا ہو تو مندرجہ ذیل نقش قمری ماہ کی پہلی جمعرات کو گلاب وزعفران سے کاغذ پر چار عدد نقوش ذیل لکھے۔ ان پر نادی علی ستر ستر بار پڑھ کر دم کرے اور اسکھنے کے عورت کے گلے میں ڈالے۔

اس کے بعد ایک جمعرات چھوڑ کر اس سے اگلی جمعرات کو آئے کا دیا بنا کر ان نقش کو تھوڑی تھوڑی روئی پیٹ کر جائے لیکن تسل کی جگہ خالص گھنی ڈالے اور چراغ جلاتے وقت نیت کرے کہ جب بچہ پیدا ہو گا تو اس کے باٹھ سے مسجد میں چراغ روشن کر پا جائے گا۔ انشاء اللہ استقر احمل کے واحد بیٹا پیدا ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

لهم له ملائكة له ملائكة له ملائكة له ملائكة له ملائكة

موسى موسى بسم الله الرحمن الرحيم . وحده

نقوش برائے استقرارِ حمل

اگر کسی عورت کو حمل قرار نہ پاتا ہو تو باوضو حالت میں گلاب و زعفران سے مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک نقش لکھ کر اس پر ناداعلیٰ سات سو سات پار پڑھ کر دم کریں اور عورت کے گلے میں لٹکائیں۔ ڈور اتنا لمبار کھیں کہ نقش یعنے تک رہے۔ بچوں میں شیرینی بھی تقسیم کریں۔

ہلے نقش کی عبارت

بسم الله الرحمن الرحيم سات بار

الله الله.....الله الله

حی حی حی حی

قیوم قیوم... قیوم قیوم

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اجْمَعِينَ

دوسرے نقش کی عبارت

بسم الله الرحمن الرحيم سات بار
 على على على على چودہ بار
 هو هو هو هو چودہ بار
 برحمتك يا ارحم الراحمين

نقش حصول اولاد

حصول اولاد کے لئے درج ذیل نقش لکھ کر اس پر نادی علیٰ پندرہ سو بار دم کرے
 اور چاندی کے تھویز میں بند کر کے عورت اپنی چوٹی میں باندھئے۔ اثناء اللہ صاحب اولاد
 ہوگی۔ نقش یہ ہے۔

بحق حبیب اللہ ۷۸۶ بحق نبی اللہ

یا و اسع	یا قادر	یا اللہ
یاعزیز	یاصاحب الملک	یاعدل اللطیف
یاصاحب مصنوع	یاباری المصور	یاخالق الباری

بحق رسول اللہ



مندرج ذیل نقش لکھ کر اس پر نادی علیٰ تین سوتیرہ بار پڑھ کر دم کریں اور سوم جامد
 کر کے عورت کے گھنے میں پہنائیں اثناء اللہ صاحب اولاد ہوگی۔ نقش گلاب و زعفران
 سے لکھا جائے۔ لکھنے سے پہلے ایک مرغ کا لے رنگ کافی کرنے کے بعد مذکورہ کردیا جائے۔

۷۸۷

۲۲۸۲۳	۲۲۸۱۸	۲۲۸۲۵
۲۲۸۲۴	۲۲۸۲۲	۲۲۸۲۰
۲۲۸۱۰	۲۲۸۲۶	۲۲۸۲۱



قیام حمل کے لئے یہ نقش بہت مفید ہے اس نقش کو باوضو کر کر اوپر پانچ سوچھیں بار نادلی پڑھ کر دم کریں۔ پھر اس کے اوپر سرخ رُشی دھا کر پیٹ کر موم جامد کر کے عورت کی کرمیں باندھئے۔ انشاء اللہ حمل قرار پائے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

یا حسی	یا حسی	یا حسی	یا حسی
یاقیوم	یاقیوم	یاقیوم	یاقیوم
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ

باجھ عورت حاملہ ہو

اگر کسی عورت کو حمل نہ تھہرتا ہو تو یہ نقش باوضو ہو کر مشکل، زعفران و گلاب یا زعفران و گلاب سے لکھ کر اس کے گرد اگر نادلی تحریر کرے اور حمل جیض کے بعد عورت و مردوں کو اس نقش کو پانی میں حل کر کے لیے لیں۔
پینے سے پہلے حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی "شیخاللہ کو ایصال ثواب کی نیت سے سوا گل کویا حسب استطاعت مٹھائی چھوٹے بچوں میں تقسیم کریں۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۷

۱۹۷۹	۱۹۸۲	۱۹۸۵	۱۹۷۲
۱۹۸۳	۱۹۷۳	۱۹۷۸	۱۹۸۳
۱۹۷۴	۱۹۸۷	۱۹۸۰	۱۹۷۷
۱۹۸۱	۱۹۷۶	۱۹۷۵	۱۹۸۲



اگر میاں بیوی بظاہر دونوں ہی تدرست ہوں اور کوئی دوسرا نقش نہ ہو جو مانع

حمل ہو تو ان کے لئے دو اٹھے جوش دے کر چھیل کر ایک اٹھے پر باوضو ہو کر ناد علیٰ لکھے اور اور دوسرا سے اٹھے پر یہ آیت لکھے اور عورت کو کھانے کے لئے دے۔

والارض فرشنها فعم الماہدون

اس کے بعد میاں یہوی قربت کریں انشاء اللہ عورت حاملہ ہوگی۔



اگر کسی عورت کو حمل نہ تھہرتا ہو تو گیارہ عدد عمدہ چھوہارے لے کر ہر چھوہارے پر ایک مرتبہ پوری سورہ مزمل اور گیارہ بار ناد علیٰ پڑھ کر دم کرے اور یہ چھوہارے عورت کو کھانے کے لئے دے۔ عورت روزانہ ایک چھوہارہ کھائے۔ اس دوران خاوند سے بھبھستہ ہو۔ انشاء اللہ حاملہ ہوگی۔

اٹھرا کا علاج

اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا ہو کر مر جائے تو وہ یہ عمل کرے۔

جب ناقمری ماہ شروع ہو تو ابتدائی تاریخ سے ہی نماز مغرب کے بعد ایک سیب اپنے سامنے رکھے اور تو سو مرتبہ ناد علیٰ پڑھ کر سیب کو دم کرے۔ یہ سیب میاں یہوی نصف نصف کھائیں۔

ای طرح تو دن تک یہ عمل روزانہ ایک سیب پر پڑھ کر کھائیں۔ کھانے کے دوران اپنے مقصد کا خیال رکھیں یعنی اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے۔ اگر اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو خیال رکھیں کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔

عمل حصول اولاد

اگر عورت کو حمل نہ تھہرتا ہو یا بابا نجھہ ہو تو ناد علیٰ اور سورہ الرعد کی آیت ۱۳۔ باوضو ہو کر زعفران و عرق گلاب سے ہرن کی جھلی پر لکھے اور موم جامد کر کے عورت کی چوٹی میں باندھے۔ انشاء اللہ حاملہ ہوگی۔



استقرارِ حمل کے لئے جب تک کہ حیض آتا ہو عورت کے قد کے برابر یعنی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کے انگوٹھے تک دھاگے کے نوتار لے کر کم سے رنگ لے۔ ان کا گند اپنا کر ستر بار ناد علی^۱ نونو بار سورہ النحل اور سورہ الکافرون پڑھ کر ایک گرد لگائیں۔ اسی طرح کل نو گرہیں لگائیں اور ہر بار پڑھ کر پھونک کر گرد لگائیں پھر یہ گند اعورت کی کمر میں بندھوائیں۔ انشاء اللہ حاملہ ہوگی۔



اگر عورت حاملہ نہ ہوتی ہو تو ناد علی^۱ مع بسم اللہ کے ایک عدد کاغذ کے چھوٹے چھوٹے مکلوں پر تحریر کر کے دے۔ عورت حیض سے پاک ہو کر روزانہ صبح نہار منہ ایک نقش پانی کے گھونٹ سے نگل لیا کرے۔ بہتر ہے پانی میں بھی ایک نقش ڈال لیا جائے اور روزانہ اسی میں سے پانی استعمال کر لیا جائے۔

طہارت کے دنوں میں عورت روزانہ ایک نقش کھاتی رہے۔ اس دوران اپنے خاوند سے ہم بستر بھی ہوتی رہے۔ اگر پہلے ماہ حاملہ نہ ہو تو دوسرے اور تیسرا میں ماہ بھی اسی طرح کرے۔ انشاء اللہ تین ماہ کے اندر ضرور تی حاملہ ہوگی۔ مولف کا بارہا کا تجربہ شدہ ہے۔

اگر گائے بھیں امید سے نہ ہوتی ہو تو اسے بھی روزانہ ایک کاغذ کے مکلوے پر لکھ کر آٹے کے بیڑے میں کھلائے۔ بھی نوائد دیتا ہے۔



اگر کوئی اولاد سے مایوس ہو گیا ہو تو خاوند اور بیوی دو دنوں ہی ناد علی^۱ کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بہتر ہے کہ فجر اور عصر یا فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے طاق عدد میں اضافہ کے ساتھ ایک وہ ایک بار پڑھ کر دعا نگلیں۔ انشاء اللہ فرزند صالح عطا ہوگا۔



اگر زوجین اولاد کی طرف سے مایوس ہوں تو دو اٹے جوش دے کر چھلکا صاف کریں۔ ایک اٹے پر ناد علی^۱ کو لفظی شکل میں لکھا جائے اور مرد کو کھانے کے لئے دیا

جائے۔ دوسرے اٹھے پر ناد علیہ کو حرمنی صورت میں لکھا جائے اور عورت کو کھانے کو دیا جائے۔ اسی طرح چالیس یوم کیا جائے۔ اس دوران زوجین ہم بستر بھی ہوتے رہیں۔ انشاء اللہ عورت حاملہ ہوگی۔

برائے بانجھ پن

ایک کانڈے کے نکلنے سے پر عرق گلب میں تدرے مشک ملا کر الگ الگ حروف
میں دو اسائے الہی "اللہ رحمٰن" یوں لکھیں:

اللہ رحمٰن

پھر اس کے گرد ناد علیہ کو دائرے کی شکل میں لکھا جائے اور اسے گھول کر
عورت کو پلاسیں اور اسے لکھ کر بانجھ عورت کے گلے میں بھی ڈالیں۔ اس کے بعد خاوند
سے ہم بستر ہو انشاء اللہ حاملہ ہوگی۔ اگر کسی پھلدہ اور درخت پر پھل نہ آتا ہو تو لکھ کر درخت
پر بندھوایں پھل آ جائے گا۔



بانجھ پن اور معمول کے حمل کے لئے چند خاص عملیات

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی بیوی حاملہ ہو تو جصرات جمع اور ہفتہ کے دن روزہ رکھے۔ ان دنوں میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد روزانہ تین ہزار بار ناد علیہ پڑھے اور پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود تاج بھی پڑھ کر پانی پر دم کرے۔

روزانہ پانی پر دم کرنے کے ساتھ ہی دعا کرے کہ خالق مجھے فرزند صالح عطا فرمادے۔ اس کے بعد یہ دم کیا ہوا پانی نصف خود پیے اور نصف اپنی بیوی کو پلائے۔

انشاء اللہ بانجھ عورت کو بھی حمل رہ جائے گا اور فرزند صالح پیدا ہو گا۔



اگر کسی عورت کو حمل قرار نہ پاتا ہو تو ایام سے پاک ہونے کے بعد ایک سبب چھیل کر اس پر سات مرتبہ ناد علیہ مع "یا مبدی" لکھ کر عورت کو کھلانے اسی طرح تین دن مسلسل کھلانے انشاء اللہ اول ماہ میں ہی حمل قرار پائے گا۔ ورنہ دوسرے اور پھر تیسرا مہ اسی طرح سبب کھلانے۔ سبب نہ ملے تو مرغی کا اٹڑا پانی میں جوش دے کر چھلکا اتار کر اس پر اس پاک سفیدی پر لکھ کر کھلانے۔ انشاء اللہ حمل قرار پائے گا۔



اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو اور چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نوازے تو سورہ فاتحہ کو ایک سو اکیس مرتبہ اس طرح پڑھ کر اول درود شریف گیارہ بار پڑھے پھر من

بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ پڑھے۔ جب آمین کہے تو سات بار نادِ علیٰ پڑھے۔
پڑھے اور اگر کسی کے ہاں اولاد تو ہو گر بیٹا نہ ہو تو آمین کے بعد تین بار کہے:

مثل زکر بیا علیہ السلام

انشاء اللہ ضرور اللہ تعالیٰ اولاد و زینت سے نوازے گا۔ بہت پُر زور اور با اثر عمل ہے
یقین و اعتقاد سے پڑھنے والا یقیننا کامیاب ہو گا۔



اگر کسی عورت کو حمل نہ ہھرتا ہو تو سات دن تک روزانہ تمہارہ منہ روٹی کے لکھوے پر
نادِ علیٰ لکھ کر اسے کھلائی جائے انشاء اللہ حمل ہھرت جائے گا۔ یہ عمل قمری ماہ کی پہلی تاریخ
سے شروع کیا جائے انشاء اللہ کامیابی ہو گا۔



جس عورت کو حمل قرار دے پاتا ہو اسے اتنا یہ روز تک ملک و زعفران سے چینی
کی طستری پر نادِ علیٰ لکھ کر ایک تشری دھو کر صبح و شام بلا ناخ پلانا نہایت مفید و محرب
ہے۔



استقرارِ حمل کے لئے نادِ علیٰ عرق گلاب میں سیاہی ملا کر اس کے ساتھ عورت کی
پیشانی پر لکھے۔ اس کے بعد یہوی سے ہمستری کرے۔ انشاء اللہ عورت حاملہ ہو۔ کافر پر
لکھ کر مانتے پر بھی چپکایا جاسکتا ہے۔



بابا فرید الدین گنج شکر سے استقرارِ حمل کے لئے یہ نقش منقول ہے کہ اگر عورت
چاہے کرے حمل قرار پا جائے تو درج ذیل سات نقش لکھ کر اختتام یہیں کے بعد روزانہ
ایک نقش حمل کر کے پیا کرے لیکن شروع کرنے سے پہلے حسب استطاعت شیخ بابا
فرید الدین گنج شکر کے ایصال ثواب کے لئے نادِ علیٰ پڑھ کر بچوں میں شیرینی تقسیم
کرے۔

نقش یہ ہے۔

س	س	س	س	س	س	س
جع						

در دِزہ سے نجات اور آسانی وضع حمل

بچے کی پیدائش کا عمل عورت کے لئے یقیناً تکلیف وہ ہوتا ہے۔ وضع حمل میں آسانی کے لئے کسی کاغذ پر سورہ انشقاق کی ابتدائی پانچ آیات اور ناد علیؑ کو کسی پاک کپڑے میں باندھ کر عورت کی چوٹی میں بندھوائیں۔ انشاء اللہ بچہ بہت آسانی سے پیدا ہوگا۔ بارہا کا مجبوب ہے۔ اسی عمل کو کسی میٹھی چیز گڑ وغیرہ پر دم کر کے کھلائیں تو بھی پیدائش میں آسانی ہوگی۔



گڑ کی تین ڈلیاں لیں۔ ان میں سے ہر ایک پر تین تین بار سورہ الطارق اور ناد علیؑ پڑھیں۔ اس کے بعد در دِزہ میں جتنا عورت کو تھوڑے تھوڑے و قتنے سے یہ ڈلیاں کھلا دیں۔ انشاء اللہ وضع حمل آسانی سے ہوگا۔

برائے تسبیل ولادت

پاؤضو حالت میں ناد علیؑ اور سورہ احقاف کو کسی چینی کی پیٹ پر لکھ کر دھو کر حاملہ عورت کو پلا میں اور قدرے پانی ہاتھ پر لگا کر کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر پھیرے۔ انشاء اللہ ولادت میں آسانی ہو۔



در دِزہ میں اسماۓ اصحاب کہف اور ناد علیؑ کو کر عورت کی چوٹی میں باندھیں بہت جلد ولادت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی گڑ پر اسماۓ اصحاب کہف اور ناد علیؑ سات مرتبہ پڑھ کر گڑ پر دم کر کے عورت کو کھلائیں۔ اسماۓ اصحاب کہف یہ ہیں۔

یملیخا۔ مکسلمینا۔ کشفوطط۔ آذر فطیونس۔ تیبونس۔ یوانس

بوس و کلہم قطریں



اگر عورت درد زہ میں بیٹلا ہو اور ولادت نہ ہوتی ہو تو نقش پاؤ ضوکھ کر اس پر تاریخی پچاس بار دم کر کے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی چوٹی میں باندھے پچھے فوراً پیدا ہو گا۔ احتیاط کرے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد نقش کھلوا کر دریا یا کنوئیں یا بستے ہوئے پانی میں ڈلوادیں ورنہ پیٹ کے اندر سے انتزیاب باہر آنے کا خطرہ ہے۔ نقش یہ ہے:

۷۸۶

۳	۹	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶



بچے کی پیدائش عورت کے لئے ایک نہایت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ درد زہ کے وقت درجہ ذیل نقش کے گرد اگر تاریخی لکھ کر عورت کی چوٹی میں بندھوائیں۔ انشاء اللہ پچھے با آسانی پیدا ہو گا۔ پیدائش کے بعد نقش کھولوں کر دریا یا کنوئیں میں ڈال دیں یا فون کر دیں۔

۷۸۷

۱۸۲۶	۱۸۲۹	۱۸۲۳	۱۸۱۹
۱۸۲۲	۱۸۲۰	۱۸۲۵	۱۸۲۰
۱۸۲۱	۱۸۲۵	۱۸۲۷	۱۸۲۳
۱۸۲۹	۱۸۲۳	۱۸۲۲	۱۸۲۴

دریزہ سے نجات

اگر دریزہ شروع ہو اور بچے کی پیدائش میں تکلیف کا سامنا ہو تو باوضو ہو کر مندرجہ ذیل نقش کے گرد ناد علی الکھیں اور اسے موم جامد کر کے عورت کی چوٹی میں بندھوائیں انشاء اللہ پر بخیرت بلا تکلیف پیدا ہو گا۔

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴



اگر بچے کی پیدائش میں وقت اور بے پنا درد کا سامنا ہو تو درج ذیل نقش لکھ کر اس پر ناد علی نوے بار دم کریں اور عورت کی چوٹی میں بندھوائیں۔ دس منٹ کے اندر بچہ پیدا ہو گا۔ پیدائش کے فوراً بعد نقش کھلوادیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم
الفت ما فيها و تخلت
واذنت لربها و حقت



اگر بچے کی پیدائش میں وقت پیش آ رہی ہو تو باوضو ہو کر ایک کاغذ پر حروف نورانی لکھ کر اس پر ناد علی ایک سو ایک بار دم کریں اور سفید کپڑے میں رکھ کر زچپ کی پائیں ران پر باندھ دے۔ انشاء اللہ پر بخیرت نورا پیدا ہو جائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد نقش کھول کر کسی پاک جگہ فن کر دیں یا بہتے ہوئے پانی میں بھا دیں۔

حروف نورانی یہ ہیں:

اح رس ص ط ع ق ک ل م ن ه و

عسر ولادت و اور اربول

اگر بچہ پیدا ہونے میں تکلیف ہو رہی ہو تو درج ذیل نقش کو باوضو ہو کر لکھے اور کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی چوٹی میں باندھ دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچہ نور آپیدا ہو گا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی نقش کھول دیں ورنہ تقصیان کا اندر یہ ہے۔ اگر کسی کا پیشاب بند ہو تو بھی یہ نقش مریض کی کمر پر گردوں کے مقام پر بند ہوا ہیں۔ پیشاب کھل جانے کے فوراً بعد نقش کھلوادیں۔ نقش یہ ہے۔

جرایل ۸۶۷ عزرا مل

و	ا	ح
ز	و	ن
ب	ط	د

مسکائیل اسرافیل



سورہ النازعات اور ناد علیہ کے اعداد لکھ کر عورت کے گلے میں ڈالنے سے ولادت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔









